آفاقی معلومات کا علمبردار

ماہنامہ روحانی

آئینہ قسمت ®

مئی ۲۰۰۶

سید انتظار حسین شاہ

بیادِ حضرت میراں حسین زنجانیؒ پیر بھائی حضرت داتا گنج بخش علی ہجویریؒ لاہور

A.B.C سے باقاعدہ منظور شدہ اشاعت

بانیٔ ادارہ مہتمم اعظم الحاج سید ناظر حسین شاہ زنجانی قدس سرہ العزیز

چیف ایڈیٹر	شہزادہ سید انتظار حسین شاہ زنجانی
مینجنگ ایڈیٹر	شہزادہ سید محمد علی زنجانی
سب ایڈیٹرز	شہزادہ سید مصور علی زنجانی شہزادہ سید محسن علی زنجانی
اعزازی ایڈیٹر	ڈاکٹر اعجاز حسین بٹ

روحانی ماہنامہ آئینہ قسمت لاہور

آفاقی تعلیمات کا علمبردار

جلد نمبر 59 | MAY 2006 | شمارہ نمبر 2

مجلس مشاورت
● مخدوم سید چن پیر قادری ● چودھری واجد علی خان ● سید محمد رضا زیدی ● پروفیسر توفیق بٹ
● مخدوم سید افضال حسین شاہ زنجانی ● ڈاکٹر اجمل نیازی ● علامہ صمصام الدین ● محمد سلیم نقشبندی

جانشین خاندانِ زنجانیہ عالیہ ☆ شہزادہ سید مصور علی شاہ زنجانی ☆ شہزادہ سید محمد علی شاہ زنجانی ☆ شہزادہ سید محسن علی شاہ زنجانی

مشیر قانونی ◀ طالب علی غضنفر ایڈووکیٹ ◀ محمد عامر چوہان ایڈووکیٹ

معاونین: منظور علی، عبدالحمید

کمپوزنگ: اصغر علی بھٹہ / سرفراز ظہیر سیفی

فہرست مضامین

قیمت 35 روپے

سالانہ چندہ 400 روپے
لائف ممبر شپ 7000 روپے

بیرونِ ممالک سالانہ چندہ

لائف ممبر شپ 505 ڈالر
مڈل ایسٹ 2000 روپے
انڈیا، ایران، سری لنکا 2000 روپے
یورپ، فار ایسٹ 3000 روپے
امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا 3000 روپے

ہیڈ آفس
فون: 042-5752277
042-5872277
فیکس: 042-5755253
موبائل: 0300-9456949
کاشانہ زنجانی 125-D گلبرگ II، لاہور

کراچی آفس
فون: 021-2217544
موبائل: 0300-2110467
کاشانہ زنجانی آرام باغ روڈ کراچی - 74200

سید انتظار حسین زنجانی ایڈیٹر/ پبلشر نے حیدری پریس، ریلوے روڈ لاہور سے چھپوا کر کاشانہ زنجانی 125-D گلبرگ 2 لاہور سے شائع کیا

حمد باری تعالیٰ

سوئی قسمت کو جگا دے یا رب!

ہم کو انسان بنا دے یا رب!
سوئی قسمت کو جگا دے یا رب!
یہ ترے بندے نہ بھٹکیں ہر گز
راہ تو سیدھی دِکھا دے یا رَب!
باغِ رضواں کی ہے خواہش دِل میں
سیر ہم کو بھی کرا دے یا رَب!
تو نے جب پیدا کیا ہے تو پھر
زندہ رہنا بھی سکھا دے یا رَب!
لوگ کرتے ہیں جو دُنیا میں ستم
ان کی ہستی کو مٹا دے یا رَب!
اپنے بندوں کے ذرا سینوں میں
نقش توحید جما دے یا رَب!
جو بھی ہیں بھٹکے ہوئے اُن کو تو
سیدھے رستے پہ چلا دے یا رَب
ہوں نہ محتاج کبھی تیرے سوا
ہم کو تو ایسا بنا دے یا رَب!
جو اُسے راہ تری دکھلائے
شمسؔ کو ایسی پلا دے یا رَب!

نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم

چار سُو پھیلا اُجالا کوئی

چار سو پھیلا اُجالا کوئی
چاند نکلا کہ ستارا کوئی
آپؐ کا دیکھ کے جلوہ سب نے
اور دیکھا ہی نہ جلوہ کوئی
آپؐ نے موجوں کا رُخ موڑ دیا
تھا نہ محفوظ کنارا کوئی
وہ ہی اِک چاند تھا جس کے آگے
دوسرا چاند نہ چمکا کوئی
آپؐ نے کی جو نظر رحمت کی
پھر تو بادل یہاں برسا کوئی
وہ بھی آخر گل و گلزار بنا
سامنے آیا جو صحرا کوئی
فیضیاب ہو کے گیا ہے وہ ہی
جو بھی در پر ترے آیا کوئی
روشنی پھیلی زمانے بھر میں
شمعِ دِیں آکے بُجھاتا کوئی
مجھ کو سرکار بلائیں گے ضرور
دے مجھے شمسؔ دِلاسا کوئی

نذرانہ عقیدت: مرزا شمس الحسن شمسؔ

جشنِ عیدِ میلادالنبیؐ اور یزیدی ظلم!

آج جشن عید میلاد النبی ﷺ ھے۔ وطن عزیز پاکستان کے کونے کونے میں جشن آمد رسول کی خوشیاں منائی جارہی ہیں میں بھی اپنے والد گرامی **پیر شاہ زنجانی** (بانی ادارہ آئینہ قسمت) کا ۱۰ '۱۱ ربیع الاول نواں سالانہ عرس منا کر آج سارا دن میلاد النبیؐ کی محافل میں شریک رہا۔ آج ہی میرے برادرِ نسبتی سید اویس بخاری کی پانچ سالہ دختر کی قرآن پاک کی آمین ہے۔ مجھے اپنے بچپن کا زمانہ یاد آ رہا ہے جب اندرون شہر کے اردگرد ٹرکوں' گڈوں' ٹانگوں' ریڑھوں پر عید میلاد النبیؐ کے جلوس نکلا کرتے تھے اور آج بھی نکلتے ہیں اور غم سے نا آشنا معصوم ذہن جشن آمد رسولؐ کی خوشیوں کو مناتے ہیں' جو ابا ابدی اور روحانی خوشیاں پاتے ہیں۔ آج ہر مسلمان' ہر پاکستانی خوشیاں مناتا ہے یہ خوشیاں مخصوص حکومتی محافل' بین الاقوامی سیرت کانفرنس' سے نکل کر چند سالوں سے جماعت اہل سنت پاکستان' دعوت اسلامی پاکستان کی کاوشوں نے گلی گلی' کوچے کوچے میلاد النبی کا شعور اُجاگر کر دیا ہے۔ مصطفیٰ ﷺ کے دیوانے بے چینی سے جشن عید میلاد النبی ﷺ کا انتظار کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک دیوانہ تو میرے گھر میں شہزادہ حافظ سید محسن علی شاہ زنجانی کی شکل میں ہے جس نے اپنے گھر کاشانہ زنجانی کو میلاد النبیؐ کی آمد سے پہلے ہی سجا دیا ہے اور اپنے ہاں 16 ربیع الاول کی شب محفل نعت خوانی کی تیاریوں میں دن رات لگا ہوا' عاشقانِ رسول ﷺ کو دعوت نامے تقسیم کر رہا ہے۔

آج کی مغرب نشتر پارک میں میلاد النبی ﷺ کی خوشی منانے والوں کیلئے کسی یزید بد بخت نے شام غریباں بنا دی۔ 61 ھ میں امام حسینؓ نے بھی سنت رسول ﷺ ادا کرنے کی عملی کوشش فرمائی اور یزیدیوں نے حالت سجدہ میں آپ کا سر تن سے جدا کر دیا اور آج بھی نماز مغرب پڑھتے ہوئے متعدد علماء کرام کو شہید کر دیا گیا۔ امام حسینؓ سنت رسول ﷺ کو بچانے کیلئے قربانیاں پیش کر رہے تھے اور آج اس بچ جانے والی سنت پر جشن عید میلاد النبی ﷺ پر خوشیاں منانے والوں کو خودکش بم دھماکے سے حالت نماز سنت حسینؓ (سنت محمدیؐ) ادا کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔ وہ ماہ محرم تھا یہ ماہ ربیع الاول ہے۔ یزیدیوں نے خوشی کے مہینے کو بھی محرم (غم کے مہینے) میں بدلنے کی ناپاک جسارت کی ہے۔ پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا تھا اس کی آج کوئی مسجد' امام بارگاہ دہشت گردی کے خدشہ سے محفوظ نہیں رہی۔ شیعہ سنی کی تفریق مٹ چکی ہے۔ دہشت گردوں نے ہر کلمہ گو کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ چند سالوں میں سینکڑوں علماء اکرام کو شہید کر دیا گیا بے شک ایک عالم (عالم دین) کی موت ایک عالم (جہاں) کی موت ہے۔ کمال حیرت کی بات ہے کہ آج تک کسی فحاشی' عریانی' ڈانس پروگرام پر دہشت گرد حملہ نہیں ہوا۔ اہم شخصیات (صدر) پر حملہ ہو تو سکیورٹی حرکت میں آ جاتی ہے ملزم پکڑے بھی جاتے ہیں' مقدمے بھی چلتے ہیں اور انہیں سزائے موت بھی ہو جاتی ہے۔

دعا ہے کہ سانحہ نشتر پارک کراچی جشن عید میلاد النبی ﷺ کے دہشت گرد جلد پکڑے جائیں اور ان کو جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ میرا دِل خون کے آنسو روتے ہوئے سانحہ نشتر پارک کراچی کے لواحقین' ہر محب وطن' ہر اسلامی بہن بھائی کے غم میں شریک ہے۔ یہی جذبات یقیناً 14 کروڑ پاکستانی عوام کے بھی ہیں۔ کاش حکومت پاکستان پورے ملک میں مذبحہ خانے حلال شے پر سے بندش کھول دے تاکہ خون بہنے اور صدقہ ہونے سے پورا ملک دہشت گردی سے محفوظ رہے۔ کراچی میں حلال شے پر ناغہ دو سال سے ختم ہے۔ روشنیوں کے شہر کراچی کو منی پاکستان کہا جائے تو بجا نہ ہوگا۔ منی پاکستان اور پورے پاکستان کی بقاء کے لئے حکومت سے اپیل ہے کہ وہ اب دیر نہ کرے ملک کے تمام مذبحہ خانے کھول دے تاکہ سنت ابراہیمؑ سے جانوروں کا خون بہے اور پاکستان میں امن قائم ہو۔

ہر پاکستانی کے غم میں شریک...... غمزدہ **شاہ زنجانی** (۱۲ ربیع الاول شب 12 بجے)

حضیض عطارد، ہبوط مریخ

از تحریر: منیر احمد میرانی۔ قمبر

تعلقات باندھنا

جن دو شخصوں کے درمیان ناجائز تعلقات ہوں اور وہ اس فعل قبیحہ سے باز نہ آتے ہوں تو اس نقش کو ہبوط مریخ و حضیض عطارد میں کالی سیاہی سے لکھیں اس کے نیچے یہ عبارت لکھو بستم فعل زنا فلان ابن فلان بین فلان بنت فلان بحق عزرائیل نقش کے اوپر ۷۸۶ نہ لکھیں بلکہ اجھزط لکھیں۔ نقش کو ایک سانس میں پر کریں اور دونوں میں سے کسی ایک کے پرانے کپڑے میں لپیٹ کر کسی قبر میں دفن کر دیں انشاء اللہ اُن دونوں کے درمیان ناجائز قسم کے تعلقات ختم ہو جائیں گے خواہ مرد کے مرد سے ہوں یا مرد کے عورت سے ہوں۔

اجھزط

۹۸۰	۹۸۵	۹۷۷
۹۷۸	۹۸۱	۹۸۳
۹۸۴	۹۷۶	۹۸۲

لوح عداوت

جن دو شخصوں میں ناجائز تعلق ہو یا باہمی بغض و عداوت کے لئے دونوں کے نام معہ والدہ لکھیں اور ان کے اعداد شمسی نکال کر نقش مربع سات عدد آتشی چال سے لکھیں۔ ایک عدد خاکی چال سے لکھیں۔ ہبوط مریخ و حضیض عطارد کے اوقات میں سفید کاغذ پر لال یا سیاہ سیاہی سے جس میں تھوڑا سا انگوری سرکہ ڈال کر لکھیں۔ روغن نیم (نمولی) یا کڑوے تیل میں جلائیں ایک ایک سات دن خاکی قبرستان میں دفن کریں۔ مردے کا کفن لپیٹ کر پہلے دونوں نقش ساعت مریخ یا عطارد میں استعمال کریں تو کامل عداوت و نفرت ہو جائے گی۔

عمل: شَدِ مَدِ ذوالجلال یا قهار یا قهار یا قهار

اس کی ہبوط مریخ یا حضیض عطارد کے وقت کسی حوض، نہر، جھیل یا دریا میں زیر ناف پانی میں کھڑا ہو کر لاتعداد پڑھیں۔ عمل جاری رکھنے کیلئے ایک سو ایک مرتبہ روزانہ ورد کریں تاکہ عمل آپ کے قابو میں رہے۔ جائز کرنے والوں کیلئے عام اجازت ہے۔ اب ترتیب لوح کی طرف آتے ہیں۔

شد مد ذوالجلال کے اعداد شمسی ۴۱۸۳

طالب و مطلوب معہ والدہ اعداد شمسی ۱۵۰۰

میزان ۵۶۸۳

۵۶۸۳-۳۰=۵۶۵۳÷۴=۱۴۱۳ باقی ا بچا

خاکی چال یہ ہے:

شد مد ذوالجلال یا قهار

۳۰۶

۱۴۱۳	۱۴۲۷	۱۴۲۳	۱۴۲۰
۱۴۲۴	۱۴۱۹	۱۴۲۴	۱۴۲۶
۱۴۱۸	۱۴۲۱	۱۴۲۹	۱۴۱۵
۱۴۲۸	۱۴۱۶	۱۴۱۷	۱۴۲۲

شد مد ذوالجلال یا قهار

شد مد ذوالجلال یا قهار

شد مد ذوالجلال یا قهار

البغض فلان بن فلان علیٰ بغض فلان بنت فلان میں علیٰ یوم القیامة عداوة هو

آتشی چال یہ ہے:

یا عزرائیل ۳۰۶ یا عزرائیل

۱۴۲۰	۱۴۲۳	۱۴۲۷	۱۴۱۳
۱۴۲۶	۱۴۱۴	۱۴۱۹	۱۴۲۴
۱۴۱۵	۱۴۲۹	۱۴۲۱	۱۴۱۸
۱۴۲۲	۱۴۱۷	۱۴۱۶	۱۴۲۸

یا عزرائیل یا عزرائیل

البغض فلان بن فلان علیٰ بغض فلان بنت فلان میں علیٰ

اوقات حضیض عطارد 7 مئی 15.55 تا 08 مئی 04.14، اوقات ہبوط مریخ 30 مئی 00.27 تا 31 مئی 16.21

12 امامؑ اور مندرہ، کڑہ وسیلہ

☆......از: پیر الطاف حسین شاہ بخاری۔ متولی پیر شاہ زنجانی

(1) اول امام علیؑ شیر خدا' کرو عاجزی منظور میری واسطے خدا کنٹھا جو تورے اسم کا گل بیچ پاؤں من کے قربان کروں جان وارے جاؤں پنجتنؑ کے۔ کر یاد پنجتنؑ کو صبح وشام دعا درود بر محمدﷺ صلوات مرتضٰی اللہ کو سجدہ محمدؐ کو سلام میت میں محمدؐ میدان میں علیؑ کل دفتر محمدؐ لاؤ لشکر علیؑ جس نے جپا علیؑ علیؑ اس کی کل بلا ٹلی بندے کا کام ہے یا علیؑ کا نام لینا یا علیؑ کا کام ہے گرتوں کو تھام لینا یا علیؑ یا علیؑ کرتے ہزاروں تر گئے۔ دشمن نبیؐ و علیؑ جی کے جہنم میں پڑ گئے۔

(2) دوسرے امام حسن مجتبیٰؑ' کرو عاجزی منظور میری واسطے خدا کنٹھا جو تورے اسم کا گل بیچ پاؤں من کے قربان کروں جان وارے جاؤں پنجتنؑ کے۔ کر یاد پنجتنؑ کو صبح وشام دعا درود بر محمدﷺ صلوات مرتضٰی اللہ کو سجدہ محمدؐ کو سلام میت میں محمدؐ میدان میں علیؑ کل دفتر محمدؐ لاؤ لشکر علیؑ جس نے جپا علیؑ علیؑ اس کی کل بلا ٹلی بندے کا کام ہے یا علیؑ کا نام لینا یا علیؑ کا کام ہے گرتوں کو تھام لینا یا علیؑ یا علیؑ کرتے ہزاروں تر گئے۔ دشمن نبیؐ و علیؑ جی کے جہنم میں پڑ گئے۔

(3) تیسرے امام حسینؑ سخی شیر میں عاجز کا کام ہووے بوہتے نہ لاؤ ڈھیر کرم میرا اک ویر میں عاقبت کی مانگتا ہوں خیر نام حسنؑ حسینؑ کے کنٹھا جو تورے اسم کا گل بیچ پاؤں من کے قربان کروں جان وارے جاؤں پنجتنؑ کے۔ کر یاد پنجتنؑ کو صبح وشام دعا درود بر محمدﷺ صلوات مرتضٰی اللہ کو سجدہ محمدؐ کو سلام میت میں محمدؐ میدان میں علیؑ کل دفتر محمدؐ لاؤ لشکر علیؑ جس نے جپا علیؑ علیؑ اس کی کل بلا ٹلی بندے کا کام ہے یا علیؑ کا نام لینا یا علیؑ کا کام ہے گرتوں کو تھام لینا یا علیؑ یا علیؑ کرتے ہزاروں تر گئے۔ دشمن نبیؐ و علیؑ جی کے جہنم میں پڑ گئے۔

(4) چوتھے امام زین العابدین مظلوموں کے ہیں سردار' ہیں بہت امین' مسلمانوں نے زہر دیا' کرو عاجزی منظور میری واسطے خدا کنٹھا جو تورے اسم کا گل بیچ پاؤں من کے قربان کروں جان وارے جاؤں پنجتنؑ کے۔ کر یاد پنجتنؑ کو صبح وشام دعا درود بر محمدﷺ صلوات مرتضٰی اللہ کو سجدہ محمدؐ کو سلام میت میں محمدؐ میدان میں علیؑ کل دفتر محمدؐ لاؤ لشکر علیؑ جس نے جپا علیؑ علیؑ اس کی کل بلا ٹلی بندے کا کام ہے یا علیؑ کا نام لینا یا علیؑ کا کام ہے گرتوں کو تھام لینا یا علیؑ یا علیؑ کرتے ہزاروں تر گئے۔ دشمن نبیؐ و علیؑ جی کے جہنم میں پڑ گئے۔

(5) پانچویں امام باقرؑ جب چڑھی فوج موزیوں کی نعرہ مار کے پچھاڑ دیئے کئی کافر' نعرہ مار یا کوٹ موزیوں کو تن کے' کنٹھا جو تورے اسم کا گل بیچ پاؤں من کے قربان کروں جان وارے جاؤں پنجتنؑ کے۔ کر یاد پنجتنؑ کو صبح وشام دعا اور درود بر محمدﷺ صلوات مرتضٰی اللہ کو سجدہ محمدؐ کو سلام میت میں محمدؐ میدان میں علیؑ کل دفتر محمدؐ لاؤ لشکر علیؑ جس نے جپا علیؑ علیؑ اس کی کل بلا ٹلی بندے کا کام ہے یا علیؑ کا نام لینا یا علیؑ کا کام ہے گرتوں کو تھام لینا یا علیؑ یا علیؑ کرتے ہزاروں تر گئے۔ دشمن نبیؐ و علیؑ جی کے جہنم میں پڑ گئے۔

(6) چھیویں امام جعفر صادقؑ صادقین ہیں۔ مسلمانوں نے زہر دیا' بہت امین ہیں۔ کرو عاجزی منظور میری واسطے کنٹھا جو تورے اسم کا گل بیچ پاؤں من کے قربان کروں جان وارے جاؤں پنجتنؑ کے۔ کر یاد پنجتنؑ کو صبح وشام دعا درود بر محمدﷺ صلوات مرتضٰی اللہ کو سجدہ محمدؐ کو سلام میت میں محمدؐ میدان میں علیؑ کل دفتر محمدؐ لاؤ لشکر علیؑ جس نے جپا علیؑ علیؑ اس کی کل بلا ٹلی بندے کا کام ہے یا علیؑ کا نام لینا یا علیؑ کا کام ہے گرتوں کو تھام لینا یا علیؑ یا علیؑ کرتے ہزاروں تر گئے۔ دشمن نبیؐ و علیؑ جی کے جہنم میں پڑ گئے۔

(7) ساتویں امام موسیٰ کاظمؑ موزیوں کو کر رد ہوئے مومناں وسیع کرو عاجزی منظور میری واسطے خدا کنٹھا جو تورے اسم کا گل بیچ پاؤں من کے قربان کروں جان وارے جاؤں پنجتنؑ کے۔ کر یاد پنجتنؑ کو صبح وشام دعا اور درود بر محمدﷺ صلوات مرتضٰی اللہ کو سجدہ محمدؐ کو سلام میت میں محمدؐ میدان میں علیؑ کل دفتر محمدؐ لاؤ لشکر علیؑ جس نے جپا علیؑ علیؑ اس کی کل بلا ٹلی بندے کا کام ہے یا علیؑ کا نام لینا یا علیؑ کا کام ہے گرتوں کو تھام لینا یا علیؑ یا علیؑ کرتے ہزاروں تر گئے۔ دشمن نبیؐ و علیؑ جی

کے جہنم میں پڑ گئے۔

(8) آٹھویں امام علی رضاؑ دین کے ہیں بادشاہ مسلمانوں نے زہر دیا' کرو عاجزی منظور میری واسطے خدا کنٹھا جو تورے اسم کا گل بیچ پاؤں من کے قربان کروں جان وارے جاؤں پنجتنؑ کے۔ کریاد پنجتنؑ کو صبح وشام دعا درود بر محمدﷺ صلوات مرتضٰی اللہ کو سجدہ محمدؐ کو سلام میت سیت میں محمدؐ میدان میں علیؑ کل دفتر محمدؐ لاؤ لشکر علیؑ جس نے جپا علیؑ علیؑ اس کی کل بلا ٹلی بندے کا کام ہے یا علیؑ کا نام لینا یا علیؑ کا کام ہے گرتوں کو تھام لینا یا علیؑ یا علیؑ کرتے ہزاروں تر گئے۔ دشمن نبیؐ و علیؑ جی کے جہنم میں پڑ گئے۔

(9) نویں امام علی نقیؑ تقویٰ ہے تیرے نام کا ہو گے مہربان کام ہوے گا غلام کا علیؑ نقی تقی سیف پورے سخن کے' کنٹھا جو تورے اسم کا گل بیچ پاؤں من کے قربان کروں جان وارے جاؤں پنجتنؑ کے۔ کریاد پنجتنؑ کو صبح وشام دعا درود بر محمدﷺ صلوات مرتضٰی اللہ کو سجدہ محمدؐ کو سلام میت سیت میں محمدؐ میدان میں علیؑ کل دفتر محمدؐ لاؤ لشکر علیؑ جس نے جپا علیؑ علیؑ اس کی کل بلا ٹلی بندے کا کام ہے یا علیؑ کا نام لینا یا علیؑ کا کام ہے گرتوں کو تھام لینا یا علیؑ یا علیؑ کرتے ہزاروں تر گئے۔ دشمن نبیؐ و علیؑ جی کے جہنم میں پڑ گئے۔

(10) دسویں امام محمد تقیؑ تقویٰ ہے تیرے نام کا ہو گے مہربان کام ہوے گا غلام کا علی نقی تقی سیف پورے سخن کے' کنٹھا جو تورے اسم کا گل بیچ پاؤں من کے قربان کروں جان وارے جاؤں پنجتنؑ کے۔ کریاد پنجتنؑ کو صبح وشام دعا درود بر محمدﷺ صلوات مرتضٰی اللہ کو سجدہ محمدؐ کو سلام میت سیت میں محمدؐ میدان میں علیؑ کل دفتر محمدؐ لاؤ لشکر علیؑ جس نے جپا علیؑ علیؑ اس کی کل بلا ٹلی بندے کا کام ہے یا علیؑ کا نام لینا یا علیؑ کا

(بقیہ صفحہ نمبر 35 پر ملاحظہ فرمائیں)



دربار مصطفائی کا روحانی فیض

آسمانی کونسل میں نظرات سیارگان کی عملیات وتعویذات کی تیاری میں ایسے ہی اہمیت رکھتی ہے جیسے جسم میں روح کی ہو۔ مندرجہ ذیل اوقات تربیع میں نحس اعمال جبکہ تسدیس' تثلیث اور قران (بشرطیکہ قران نحس کواکب کا نہ ہو) میں سعد اعمال کیے جاتے ہیں۔

قارئین آئینہ قسمت! چند سال سے آپ نے' اس کالم میں تبدیلی محسوس کی ہوگی۔ نظر سیارگان کی ابتداء' انتہا اور خاتمہ کے اوقات عملیات کو شامل کر کے ہم نے عاملین' شائقین عملیات کے لئے آسانی پیدا کردی ہے۔ اب یہ الجھن ختم ہوگئی کہ فلاں سیارے کی نظر کب بن کر کب ختم ہوگی۔ اب عملیات کی تیاری میں پورے پورے وقت سے استفادہ کیا جاسکتا ہے۔ نقشہ ساعت (جو اگلے صفحہ پر ہے) سے جو ہر دن طلوع آفتاب سے شروع ہوتی ہے اپنے شہر کے طلوع آفتاب سے متعلقہ ستارے کی ساعت دیکھ کر اس ساعت میں تیار کیا گیا عمل اور بھی مؤثر ہو جاتا ہے۔ سالنامہ زنجانی جنتری 2005ء میں بھی ہم نے اہم سالانہ نظرات سیارگان تفصیلی درج کئے ہیں۔ ہماری خدمت باعث فخر بھی بن سکتی ہے جب آپ وقتاً فوقتاً اپنے تبصروں سے نوازتے رہیں۔

عامل شاہ زنجانی

نظرات سیارگان کے عملیات برائے مئی 2006ء

کسی بھی عمل کی ابتداء سے پہلے 2 رکعت نماز اجالاً ہدیہ روح حضرت رسالت پناہ ﷺ مع سائر انبیاء عظامؑ اور اولیاء کرامؒ پڑھیں۔ پھر مخصوص بہ نیت رجال الغیب مردان خدا جس سمت یہ اس روز کھڑے ہوں ان کی طرف باادب رخ کر کے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی اس سمت کھڑی کر کے درج ذیل دعا مع ایک بار بسم اللہ شریف پڑھ کر سات بار پڑھیں۔ رجال الغیب کی تواریخ کا چارٹ حسب ذیل ہے۔ عمل کرتے وقت رجال الغیب کی جانب اپنی پشت رکھیں۔

جنوب' مشرق 24`16`09`01	جنوب مغرب 25`17`10`02	جنوب 26`18`11`03	مغرب 27`19`12`04
شمال مغرب 00`20`13`05	شمال مشرق 28`21`00`06	مشرق 29`22`14`07	شمال 30`23`15`08

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط اَلسَّلَامُ عَلَیْکُمْ یَا رِجَالُ الْغَیْبِ وَیَا اَرْوَاحُ الْمُقَدَّسَۃ اَعِیْنُوْنِیْ بِقُوَّۃٍ وَ انْظُرُوْ نِیْ بِنَظْرَۃٍ یَا رُقَبَاء یَا نُقَبَاء یَا نُجَبَاء یَا اَبْدَال یَا اَوْتَاد یَا قُطْب یَا غَوْث اَعِیْنُوْنِیْ بِحُرْمَۃِ مُحَمَّد صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ وَ عَلٰی آلِہٖ وَاَ صَحَابِہٖ اَجْمَعِیْن

روحانی ماہنامہ آئینہ قسمت میں تمام اعمال نیک نیتی کی بناء پر عاملین وقارئین کے استفادہ کے لئے دیئے جاتے ہیں۔ جائز کام میں تو اللہ اور اس کا رسولؐ بھی مدد کرتے ہیں۔ ناجائز عمل کرنے سے باز رہیں ورنہ سخت رجعت بھی ممکن ہے۔ بہرحال جب بھی کوئی عمل کریں تو لازم ہے کہ عمل کی رجعت سے بچنے کے لئے 6 کلو چینی' ایک کلو سوجی یا بارہ کلو باجرہ دو کلو چاول اپنے سر سے وار کر رکھ لیں۔ بعد از عمل استعمال سے پہلے کسی بھی قبرستان جا کر عامل شاہ زنجانی کا اور اپنا اہل قبور کو سلام عرض کریں اور فاتحہ خوانی کر کے درختوں کی جڑوں میں حشرات الارض کو صدقہ ڈال دیں اور صدقہ ڈالنے کے بعد پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ یہ صدقہ صرف ایک عمل کے لئے ہے۔ دوسرے عمل کے لئے علیحدہ صدقہ دیں۔

ساعات کی ترتیب آپکے شہر کیطلوع آفتاب سے شروع ہوتی ہے

شمار	پہلی								دوسری							تیسری							چوتھی	
دن	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴
اتوار	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مریخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مریخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مریخ	شمس	زہرہ	عطارد
پیر	قمر	زحل	مشتری	مریخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مریخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مریخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری
منگل	مریخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مریخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مریخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مریخ	شمس	زہرہ
بدھ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مریخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مریخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مریخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل
جمعرات	مشتری	مریخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مریخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مریخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مریخ	شمس
جمعہ	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مریخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مریخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مریخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر
ہفتہ	زحل	مشتری	مریخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مریخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مریخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مریخ

تسدیس شمس مریخ

اس سعد وقت کی ابتداء 27 اپریل صفر بجکر 28 منٹ مکمل نظر 29 اپریل 14 بجکر 32 منٹ' خاتمہ نظر 2 مئی 5 بجکر 4 منٹ پر ہوگا۔ تسخیر خلق' با اثر لوگوں سے تعلق و دوستی کے لئے سورۃ یوسف کا خالی البطن نقش لکھ کر باپرہیز پاس رکھیں نیکی پائیں۔

۷۸۶		
۴۱۹۹۸	۳۳۵۹۸۸	۱۲۵۹۹۴
۲۰۹۹۹۰	یہاں مقصد لکھیں	۲۹۳۹۹۰
۲۵۱۹۹۲	۱۶۷۹۹۲	۸۳۹۹۶

تثلیث مریخ مشتری

اس سعد وقت کی ابتداء 6 مئی 4 بجکر 47 منٹ' مکمل نظر 7 مئی 14 بجکر 12 منٹ' خاتمہ نظر 8 مئی 23 بجکر 37 منٹ پر ہوگا۔ حصول دولت' انعامات' غیبی امداد و مدد وغیرہ حل المشکلات کے لئے نقش نادعلی باپرہیز پاس رکھیں صدقہ مشکل کشاء' مشکل کشائی پائیں۔

۷۸۶

۱۵۹۶	۱۶۰۹	۱۶۰۶	۱۶۰۳
۱۶۰۷	۱۶۰۲	۱۵۹۷	۱۶۰۸
۱۶۰۱	۱۶۰۴	۱۶۱۱	۱۵۹۸
۱۶۱۰	۱۵۹۹	۱۶۰۰	۱۶۰۵

مقابلہ شمس مشتری

اس نحس وقت کی ابتداء 3 مئی 21 بجکر 43 منٹ مکمل نظر 4 مئی 19 بجکر 36 منٹ' خاتمہ نظر 5 مئی 17 بجکر 29 منٹ پر ہوگا۔ حاسدین' مخالفین کی ویرانی' حیرانی' پریشانی کے لئے اگر اشد ضروری ہو تو سورہ فیل کا خالی البطن نقش لکھ کر احاطہ قبور میں ساعت شمس یا زحل میں دبائیں۔

۷۸۶		
۶۸۸	۳۹۰۷	۱۴۶۴
۲۴۴۰	یہاں مقصد لکھیں	۳۴۱۹
۲۹۳۱	۱۹۵۲	۹۷۶

تثلیث زہرہ زحل

اس سعد وقت کی ابتداء 7 مئی 9 بجکر 45 منٹ' مکمل نظر 8 مئی 7 بجکر 56 منٹ' خاتمہ نظر 9 مئی 6 بجکر 8 منٹ پر ہوگا۔ ناراض بزرگوں زوجین میں اتفاق' محبت' دوستی پیدا کرانے کیلئے سورۃ یوسف کا خالی البطن نقش لکھ کر پہن سکتے ہیں۔ درخت انار یا کسی پھلدار درخت سے لٹکائیں نیکی پائیں۔

۷۸۶		
۴۱۹۹۸	۳۳۵۹۸۸	۱۲۵۹۹۴
۲۰۹۹۹۰	یہاں مقصد لکھیں	۲۹۳۹۹۰
۲۵۱۹۹۲	۱۶۷۹۹۲	۸۳۹۹۶

تربیعِ عطارد زحل

اس نحس وقت کی ابتداء 7 مئی 19 بجکر 19 منٹ، مکمل نظر 8 مئی 8 بجکر صفر منٹ، خاتمہ نظر 8 مئی 20 بجکر 33 منٹ پر ہوگا۔ حاسدین کو پریشانی میں مبتلا کرنا اگر اشد ضروری ہو تو سورۃ لہب کا خالی البطن نقش لکھ کر احاطہ قبور میں دفن کریں۔ ناجائز ہرگز نہ کریں۔

۷۸۶		
۱۴۵۵	۲۸۸۶	۴۸۵
۳۴۰۱	یہاں مقصد لکھیں	۲۴۲۵
۹۷۰	۱۹۴۰	۲۹۱۶

مقابلہ عطارد مشتری

اس نحس وقت کی ابتداء 11 مئی 17 بجکر 19 منٹ، مکمل نظر 12 مئی 4 بجکر 18 منٹ، خاتمہ نظر 12 مئی 15 بجکر 14 منٹ پر ہوگا۔ حاسدین، دشمنان کا غلبہ اگر بڑھ جائے اور باز نہ آئیں تو انہیں اپنی فکر لاحق، نقصان و پریشانی میں مبتلا کرنے کیلئے سورۃ فیل کا خالی البطن نقش لکھ کر مذکورہ جگہ یا احاطہ قبور میں ساعت عطارد یا زحل میں دفن کریں ناجائز ہرگز نہ کریں۔

۷۸۶		
۱۴۶۴	۳۹۰۷	۶۸۸
۳۴۱۹	یہاں مقصد لکھیں	۲۴۴۰
۹۷۶	۱۹۵۲	۲۹۳۱

تسدیس عطارد مریخ

اس سعد وقت کی ابتداء 13 مئی 17 بجکر 14 منٹ، مکمل نظر 14 مئی 9 بجکر 4 منٹ، خاتمہ نظر 15 مئی صفر بجکر 43 منٹ پر ہوگا۔ ماتحت اور افسران بالا، دوستوں خصوصاً زوجین میں الفت و محبت قائم و دائم رکھنے کیلئے سورۃ یوسف کا خالی البطن نقش لکھ کر پلا بھی سکتے ہیں یا پھر درخت انار یا کسی پھلدار درخت پر باندھیں نیک پائیں۔

۷۸۶		
۱۲۵۹۹۴	۳۳۵۹۸۸	۴۱۹۹۸
۲۹۳۹۹۰	یہاں مقصد لکھیں	۲۰۹۹۹۰
۸۳۹۹۶	۱۶۷۹۹۲	۲۵۱۹۹۲

قران شمس و عطارد

جدید تحقیق نجوم میں یہ بہت اہم اور سعد وقت مانا گیا ہے۔ اس سعد وقت کی ابتداء 18 مئی 5 بجکر 21 منٹ، مکمل نظر 19 مئی ایک بجکر ایک منٹ، خاتمہ نظر 19 مئی 20 بجکر 35 منٹ پر ہوگا۔ اپنے کام کاج کی صلاحیت بڑھانے اور ہر قسم کی حل المشکلات کے لئے نقش نادعلی لکھ کر پاس رکھنا نیک ہے۔

۷۸۶			
۱۶۰۳	۱۶۰۶	۱۶۰۹	۱۵۹۶
۱۶۰۸	۱۵۹۷	۱۶۰۲	۱۶۰۷
۱۵۹۸	۱۶۱۱	۱۶۰۴	۱۶۰۱
۱۶۰۵	۱۶۰۰	۱۵۹۹	۱۶۱۰

تربیع زہرہ مریخ

اس نحس وقت کی ابتداء 22 مئی 8 بجکر 12 منٹ مکمل نظر 24 مئی 2 بجکر 59 منٹ، خاتمہ نظر 25 مئی 21 بجکر 41 منٹ پر ہوگا۔ ناجائز الفت رکھنے والے مرد و زن یا ان جیسے کسی حساس نوعیت کے معاملہ کیلئے سورۃ مائدہ کا خالی البطن نقش لکھ کر ساعت مریخ میں احاطہ قبور میں دفن کریں۔

۷۸۶		
۲۱۲۱۳۶	۵۶۵۶۹۸	۷۰۷۱۲
۴۹۴۹۸۶	یہاں مقصد لکھیں	۳۵۳۵۶۰
۱۴۱۴۲۴	۲۸۲۸۴۸	۴۲۴۲۷۴

تسدیس شمس زحل

اس سعد وقت کی ابتداء 27 مئی 6 بجکر 25 منٹ، مکمل نظر 28 مئی 9 بجکر 48 منٹ، خاتمہ نظر 29 مئی 13 بجکر 14 منٹ پر ہوگا۔ ترقی روزگار،

نوٹ: جو بہن بھائی خود یہ عمل تیار نہ کر سکیں وہ عامل شاہ زنجانی سے رجوع کریں

بیروزگاری کے خاتمہ کیلئے سورۃ یٰسین کا خالی البطن نقش لکھ کر پاس رکھیں۔

۷۸۶		
۱۸۴۵۰	۱۴۷۶۱۰	۵۵۳۵۰
۹۲۲۵۰	یہاں مقصد لکھیں	۱۲۸۱۶۰
۱۱۰۷۱۰	۷۳۸۰۰	۳۶۹۰۰

تسدیس عطارد زحل


اس سعد وقت کی ابتداء 22 مئی 11 بجکر 33 منٹ، مکمل نظر 22 مئی 22 بجکر 59 منٹ، خاتمہ نظر 23 مئی 10 بجکر 25 منٹ پر ہوگا۔ برائے حل المشکلات ہر قسم ہر جائز کام میں آسانی کے لئے نقش نادعلی لکھ کر با پرہیز پاس رکھیں نیکی پائیں۔


بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

نادِ	علیاً	مظہر	العجائب	تجدہ	عوناً	لک	فی النوائب	کل	ہم
علیاً	مظہر	العجائب	تجدہ	عوناً	لک	فی النوائب	کل	ہم	وغم
مظہر	العجائب	تجدہ	عوناً	لک	فی النوائب	کل	ہم	وغم	سینجلی
العجائب	تجدہ	عوناً	لک	فی النوائب	کل	ہم	وغم	سینجلی	بعظمتک
تجدہ	عوناً	لک	فی النوائب	کل	ہم	وغم	سینجلی	بعظمتک	یا اللہ
عوناً	لک	فی النوائب	کل	ہم	وغم	سینجلی	بعظمتک	یا اللہ	بنبوتک
لک	فی النوائب	کل	ہم	وغم	سینجلی	بعظمتک	یا اللہ	بنبوتک	یا محمد
فی النوائب	کل	ہم	وغم	سینجلی	بعظمتک	یا اللہ	بنبوتک	یا محمد	بولایتک
کل	ہم	وغم	سینجلی	بعظمتک	یا اللہ	بنبوتک	یا محمد	بولایتک	یا علی
ہم	وغم	سینجلی	بعظمتک	یا اللہ	بنبوتک	یا محمد	بولایتک	یا علی	یا علی
وغم	سینجلی	بعظمتک	یا اللہ	بنبوتک	یا محمد	بولایتک	یا علی	یا علی	یا علی

قاعدہ نظرات نجوم، رمل و جفر

از قلم: فضل محمود نقاش کھوکھر: ترنڈہ محمد پناہ ...... پیارے قارئین! حضرت شہزادہ سید انتظار حسین شاہ زنجانی صاحب نے اپنے رسالہ آئینہ قسمت ماہ فروری 2006ء کے صفحہ نمبر 45 پر نجوم و جفر کے علم کو ایک روحانی سائنس قرار دیا ہے۔ جس میں قواعد نجوم کا ایک معتبر قاعدہ نظرات کو عملیات کے لئے لازمی فرمایا ہے۔ گویا ثابت کیا ہے کہ نجوم کے بعد جفر سیکھنا چاہئے اور جفر کے لئے نجوم کا علم ضروری ہے ورنہ کوئی عامل درست طریقے سے عملیات پر کام نہیں کر سکے گا کیونکہ غلطی کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ جہاں نجوم وقت کی راہنمائی کرتا ہے وہاں جفر مسائل کا حل پیش کرتا ہے۔ اس صورت میں علم رمل فضول نہیں ہے تو فاضل علم ضرور ہے۔ جو عملیات کی روحانی دُنیا میں کم راہنمائے عملیات ہے۔ البتہ سائل کو "آئینہ قسمت" ضرور دکھاتا ہے۔ اس لئے یہ بھی ضروری علم ہے۔ گویا علوم روحانی میں نجوم، رمل اور جفر ایک ٹرائی اینگل (مثلث) ہے۔ زمانہ قدیم سے علوم روحانی نجوم، رمل اور جفر کو استادانِ فن اس طرح حفاظت سے رکھتے تھے جیسا کہ اب ایٹمی اسلحہ کی حفاظت کی جاتی ہے کیونکہ یہ علوم بھی دہشت گردوں کے ہاتھ لگ سکتے تھے۔ پیارے قارئین آئینہ قسمت! جفر کا حصہ عملیات میں نجوم کا قاعدہ نظرات زیادہ مستعمل اور معروف ہے۔ نجوم میں نظرات کا طریقہ مسلمانوں نے متعارف کرایا۔ لیکن نجوم کے قواعد میں سے مشرقی نجوم (ہندوستان کا ہے) اور مغربی نجوم یونان کا ہے۔ یا پاکستان کے دریائے سندھ کے مغربی کنارے سے لیکر یونان تک کا علم ہے ہندوستانی نجوم کو نریانہ طریقہ اور یونانی نجوم کو سیانہ طریقہ کہا جاتا ہے۔ نظرات کا طریقہ نریانہ اور سیانہ طریقوں میں اختلاف ہے۔ ہندوستانی نجوم ۳۶۵ دن ۶ گھنٹے ۹ منٹ ۹،۵ سیکنڈ پر ہے۔ جو متحرک نجوم ہے۔ ہندوستانی نریانہ سسٹم میں سدھانت اور تاجک کے قواعد کے ساتھ جیمنی طرائق استعمال ہوتے رہے جو مشکل ہونے کے ساتھ ساتھ باہم اختلاف رکھتے تھے۔ اس لئے باعث اختلاف بن گئے چنانچہ پاراشر کا طریقہ کار علماء نجوم (منجم حضرات) نے اپنالیا۔ حضرت شہزادہ سید انتظار حسین شاہ زنجانی صاحب بھی نریانہ طریقہ کار کو پسند فرماتے ہیں۔ ان کی سیاسی پیشگوئیاں نریانہ سسٹم کے تحت ہوتی ہیں جبکہ باقی جنتری میں قمر در بروج و منازل یونانی (سیانہ) سسٹم کے تحت ہیں اور تقویم سیارگان بھی یونانی قاعدہ کے مطابق ہوتی ہے۔ اس لئے کچھ حضرات لفظ نریانہ اور سیانہ سے پریشان ہو جاتے ہیں اور ہیں۔ نریانہ نجوم کے تحت نظرات کا فلسفہ درجات کے اعتبار سے نہ ہے بلکہ بھوت/گھر/بروج سے ہے جو بدرجہ اوسط ۳۰ درجہ کا ہوتا ہے جو کم و بیش درجات کے بھی ہو سکتے ہیں۔ نریانہ قاعدہ میں نظرات برج سے برج تک گنی جاتی ہیں جن میں درجات کواکب کی مطلق ضرورت نہ ہے۔ = ان نظرات میں کوئی نظر سعد نہ ہے۔ بلکہ کواکب کی ذات پر انحصار کرتی ہے کہ نحس کواکب کی نظر نحس، سعد کواکب کی نظر سعد اور سعد اور نحس کواکب کی نظر باہم ممتزج یا غالب کواکب کے ہے (جیسا کہ ایک چور جب کسی جگہ یا گھر میں جاتا ہے تو ہر چیز کو چوری کرنے کی نگاہ سے دیکھتا ہے)۔ نریانہ قاعدہ کے مطابق زائچہ میں چار بروج یا گھروں کی نظر نہ بنتی ہے جو طالع سے ۲، ۶، ۸، ۱۲ گھروں/خانوں میں پڑتے ہیں ان میں بعض حضرات خانہ نمبر ۱۱ کو ساقط یا نحس شمار کرتے ہیں۔





اَلُلَطِیْفُ

اسماء الحسنیٰ

ازتحریر: میاں جاوید اقبال۔ نارووال

اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے:

وَاللّٰہُ الاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَادْعُوْلَنَا o

مجھے اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کیلئے میرے اسماء حسنٰی کے ذریعے پکارو۔

کامل عاملین کے مجرب اعمال میں سے اسماء الحسنٰی کے اعمال سرفہرست ہیں۔ جن سے وہ طرح طرح کے فوائد حاصل کرتے رہے اور ملازمت' ترقی' اولاد' صحت' بلندی' مرتبہ غرض کہ دین و دُنیا کے مقاصد کے واسطے تیر بہدف عمل تیار کرتے رہے۔ اسمائے باری تعالیٰ کی عظمت اور فضیلت کے متعلق آپ پہلے ہی سے آگاہ ہیں۔ ان سے میں ایک اللطیف پر چند اعمال حاضر ہیں ان کے ورد سے انشاء اللہ ایسی برکت ہوگی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ ترقی کھل جائے گی۔ کاروبار میں بے انتہا ترقی ہوگی جن لوگوں کے انعام نہیں نکلتے اُن کے انعام نکلنا شروع ہوجائیں گے۔

اللطیف

رنج وغم دور کرنے اور سختیوں سے نجات پانے کی اس میں خاص تاثیر ہے۔ جو لوگ رنج دُنیا سے تنگ آ گئے ہوں وہ اس اسم کو پڑھیں تو تمام سختیوں سے نکل جائینگے۔ انعام حاصل کرنے کا ایک خاص عمل ہے۔ شرف مشتری' شرف زہرہ اور شرف قمر میں کام دیگی۔ کشادگی رزق اور غموں سے نجات کیلئے انعام حاصل کرنے کیلئے کارآمد ہے۔ جن لوگوں سے رقم واپس نہ ملتی ہو وہ واپس مل جائے گی۔ نقش یہ ہے:

۷۸۶

جبرائیل

میکائیل

ال	لط	ی	ف
۱۱	۷۹	۳۲	۳۸
۷۸	۸	۴۱	۳۳
۴۰	۳۴	۷۷	۹

اسرافیل — عزرائیل

مؤکل حاضر کرنا

اعداد قمری اس کے ۱۲۹ ہیں فطرت جمال اور خاصیت آتشی ہے۔ دن جمعرات ہے۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے حضرت شاہ زنجانی صاحب سے اجازت لیں بغیر اجازت ہرگز نہ کریں۔ اس کی ریاضت سات ہزار بار ہے۔ تمام شرائط خلوت اور جلالی و جمالی سے پڑھنا چاہیے۔ شب جمعہ بعد از نماز عشاء دو رکعت نماز نفل ادا کریں جس کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورۃ کہف ہو اور دوسری رکعت میں سورۃ یٰسین بعد ازاں ۲۱ مرتبہ درود پاک اول و آخر پڑھیں۔ چلہ ۴۱ یوم کا ہے۔ بعد میں مؤکل حاضر ہوگا۔ عود ولوبان کا بخور ہو مؤکل سیاہ پتھر کا ایک تحفہ دے گا جس کو گرم کرنے سے وہ حاضر ہوگا اور جب رخصت کرو گے تو چلا جائے گا۔ حاجت کیلئے ۶۰۰ مرتبہ روزانہ 'اللطیف' ظالم سے بچنے کیلئے ۱۲۹ مرتبہ روزانہ اللطیف کا ورد کریں۔

رزق و دولت کی فراوانی

دولت اور رزق کی فراوانی کیلئے مربع آتشی لکھ کر اپنے پاس رکھیں اور کوئی خاص قسم کا انعام یا بانڈ یا لاٹری نکلوانے کیلئے ۷۵ دن تک روزانہ سات ہزار ۳ سو مرتبہ اللطیف پڑھ کر دم کیا کریں انشاء اللہ اول انعام کے حقدار ہونگے۔ نقش یہ ہے:

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْم

جبرائیل

میکائیل

اللہ لطیف	بعبادہٖ	یرزق	من یشآء
من یشآء	یرزق	بعبادہٖ	اللہ لطیف
بعبادہٖ	اللہ لطیف	من یشآء	یرزق
یرزق	من یشآء	اللہ لطیف	بعبادہٖ

اسرافیل — عزرائیل

رنج وغم اور دشمن سے بچنے کیلئے

لا تدرکه الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیرo

اگر کوئی رنج وغم اور خوف وشدت بختی میں مبتلا ہے تو اس آیت مبارکہ کو ایک مرتبہ اور اللطیف ۱۲۹ بار ۴۱ یوم ورد کریں انشاء اللہ تمام آفات وبلیات دور ہونگی۔ ظالم اور دشمن سے محفوظ رہنے کیلئے ایک مرتبہ آیت مبارکہ اور ۱۲۹ مرتبہ اللطیف کا ورد رکھیں۔

اِنَّ رَبِّیْ لَطِیْفٌ لِّمَا یَشَآءُ اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِیْمُ الْحَکِیْمُo

تسخیر خلق کیلئے

تسخیر خلق کیلئے ایک مرتبہ آیت مبارکہ اور ۱۲۹ مرتبہ ''اللطیف'' کا ورد ۴۱ یوم کریں۔

اَللّٰهُ لَطِیْفٌ بِعِبَادِهٖ یَرْزُقُ مَنْ یَّشَآءُ وَهُوَ الْقَوِیُّ الْعَزِیْزُo

بلندی مرتبہ

اگر کوئی خاص مرتبہ کا خواہش مند ہو یا خاص منصب/حکومت تو وہ ۴۱ یوم ایک مرتبہ آیت مبارکہ اور ۱۲۹ مرتبہ ''اللطیف'' کا ورد کریں۔ بانڈز یا لاٹری میں اول انعام کیلئے درج بالا نقش سامنے رکھ کر یہی آیات اور ۱۲۹ مرتبہ ورد ''اللطیف'' کا کریں۔

(۱) اَلَا یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِیْفُ الْخَبِیْرُo یا

(۲) یَا لَطِیْفُ تَلَطَّفْ مِنَ اللُّطْفِ لِیْ تَلَطَّفْ وَاللُّطْفِ لُطْفِکَ یَا لَطِیْفُo

کشائش رزق کیلئے

''اللّٰہ لطیف بعبادہ'' یہ ذوالکتابت مثلث حضرت کاش البرنی سے منسوب ہے۔ یہ کمال کی مثلث اس امر کیلئے نہایت مجرب ہے۔ تینوں حروف مثلث کے سر پر ہیں۔ کمال اس مثلث میں یہ ہے کہ ہر خانہ کے عدد جمل صغیر ۳ ہی آتے ہیں کیونکہ ۳ ہی ہر ضلع کے خانے ہیں اور ۳ ہی آیت مبارکہ کے لفظ ہیں۔ ہر طرف سے جو میزان آتی ہے وہ اعداد کے موافق ۲۷۹ جس کا مفرد ۹ آتا ہے اور ثلث ۳ ہوتا ہے اور ۳ خانوں کی مثلث کے مکمل خانے بھی ۹ ہوتے ہیں اور یہ ۹-۹ کے اضافہ سے پر کی جاتی ہے۔ یعنی ہر خانہ میں ۹ کا اضافہ کر کے پر کی جائے۔ یہ مثلث تسدیس یا تثلیث یا تثلیث قمر وزہرہ یا قمر ومشتری یا زہرہ مشتری میں تیار کریں اور بخور عود یا صندل کا جلائیں۔ اگر کوئی شخص یا لطیف کا عامل ہو مثلث فوراً اثر دکھائے گی۔ چند ہی دنوں میں حامل لوح پر رزق کے دروازے کھل جائیں گے ہر طرح سے آمد ہوگی اور آدمی جلد ہی امیر وکبیر ہوجائے گا۔ چال نقش یہ ہے:

چال نقش

۲	۹	۴
۷	۵	۳
۶	۱	۸

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

جبرائیل

اللہ	لطیف	بعبادہ
۱۱۱	۹۳	۷۵
۱۰۲	۵۷	۱۲۰

رزق میں برکت و ادائیگی قرض

جو حضرات تنگی رزق کے ساتھ ساتھ قرض میں جکڑے ہوئے ہیں وہ درج بالا مثلث بنوا کر ساتھ میں 41 یوم تک درج ذیل آیت ایک مرتبہ اور ۱۲۹ مرتبہ ''اللطیف'' کا ورد کر کے لوح کو دم کریں انشاء اللہ خزانہ غیب سے ایسا سبب ہوگا کہ رزق کے دروازے بھی کھل جائیں گے اور قرض بھی ادا ہوجائے گا۔

اَللّٰهُمَّ اَدِمْ نِعْمَتَکَ وَ الطُفْ بنا فیما قدرته عَلَیْنَاo

فراوانی رزق

اس کا مربع زہرہ مشتری تثلیث میں تیار کریں اور سامنے رکھ کر اعداد کے مطابق ۱۲۹ مرتبہ ''اللطیف'' کا ورد کریں تو ہر بیماری اور سختی رفع ہوگی قیدیوں اور لاعلاج مریضوں کیلئے مفید ہے جس شخص کے نام کے اعداد ۱۲۹ ہوں تو اُس کیلئے سونے پر سہاگہ والی بات ہے اگر اس کا ذکر کثرت سے کریں اور کسی چیز کا تصور رکھیں تو وہ خیالی صورت

بن کر سامنے آجائے گی۔ ہمزاد اس کے واسطہ سے جلد تابع ہو جاتا ہے کیونکہ یہ ظہور میں لانے والے اسماء میں سے ہے۔ ریاضت اس کی ۷۰ ہزار مرتبہ ہے۔ اس سے ہمزاد بہت جلد تابع ہو جاتا ہے۔ مربع آتشی چال سے پر کیا جائے۔ نقش یہ ہے:

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

جبرائیل

۱۳	۸۱	۲۹	۶
۲۸	۷	۱۲	۸۲
۸	۳۱	۷۹	۱۱
ف	ی	ط	ل

غنی اور دولت مند ہونا

اول غسل کریں اور پھر تازہ وضو بنا کر دو رکعت نماز نفل بعجز و انکساری ادا کریں پھر ۱۲۹ مرتبہ یا لطیف یا طاطائیل پڑھیں اور بعد میں یہ کلمات کہیں۔

یَا لَطِیْفُ اُلْطُفِیْ بِلُطْفِکَ یَا لَطِیْفُ

۱۲۹ بار پڑھیں اور نظر نقش پر رکھیں۔ ۲۱ روز یہ عمل کریں اور پھر نقش کو اپنے پاس رکھیں انشاء اللہ بہت جلد غنی ہو جائے گا۔ نقش مربع آتشی چال سے پر کریں۔ نقش یہ ہے:

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

جبرائیل

ف	ی	ط	ل
ل	ط	ی	ف
ی	ف	ل	ط
ط	ل	ف	ی

برائے کشف

اس اسم کا عامل ہمیشہ امن و امان کی زندگی خدا کے فضل و کرم سے گزارے گا اور جو بھی عامل کے پاس آئے تو اس کا حال عامل پر ظاہر ہوگا جس طرح آئینہ دیکھتا ہے اگر کسی قبر پر چند منٹ مراقبہ ہو تو چند مرتبہ تلاوت کرنے سے قبر کا حال دیکھے گا اور بات بھی کرے گا اور اہل قبر کے دوست احباب اور رشتہ داروں کے متعلق جو سوال کرے گا جواب ملے گا۔

عزیمت: اَجِبْ یَا طَاطَائِیْلُ بِحَقِّ لَامْ یَا لَطِیْفُ بِاَوْصَافِ کَمَالِہٖ بِالْطَافَۃِ وَالْطَافَۃِ فِیْ لَطَافَۃِ لَطَائِفِکَ یَا لَطِیْفُ o

طریقہ زکوٰۃ: کامیابی کیلئے سب سے پہلے شاہ زنجانی صاحب سے اجازت اور پھر سات دن تک سات ہزار مرتبہ روز پڑھیں بعد میں ۱۲۹ مرتبہ روزانہ مداومت کریں اول و آخر سات سات مرتبہ درود پاک پڑھیں۔

برائے حاضرات

حاضرات کے شائقین کیلئے بہت ہی اہم عمل ہے۔ اس طرح کے عمل بہت ہی نایاب ہیں اس کیلئے سب سے پہلے حضرت شاہ زنجانی سے اجازت لیں اس عمل کو بغیر اجازت ہرگز نہ کریں ورنہ نقصان ہوسکتا ہے۔ یا پھر کامیابی نہیں ہو سکتی۔ طریقہ اس کا یوں ہے کہ اس عزیمت کو ۳۳۳ مرتبہ روزانہ' ۱۲۰ یوم ورد کریں ورد سے قبل اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں اور ایک وظیفہ کے تمام قواعد وضوابط کو بروئے کار لائیں مکمل بخور کے ساتھ کام کریں۔

عزیمت: بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ o یَا لَطِیْفُ اَلْطَفُ مِنْ کُلِّ لَطِیْفٍ یَا کَرِیْمُ اَکْرَمُ مِنْ کُلِّ کَرِیْمٍ یَا ھُوَ یَا ھُوَ یَا ھُوَ یَا مَنْ لَیْسَ لَہٗ اِلَّا ھُوَ یَا سَلَامٌ اَسْلَمُ مِنْ کُلِّ سَلَامٍ o

طریقہ حاضرات: ایک مرتبہ پھر عرض کر رہا ہوں شائقین حاضرات بغیر اجازت ہرگز نہ کریں کیونکہ یہ انتہائی سریع التاثیر اور حقیقی عمل ہے جو کہ اگر کسی کے پاس ہو بھی تو وہ اُسے سینہ سے نکالتا ہی نہیں اس حاضرات کیلئے اول سیاہی حاصل کریں یا اس عزیمت کو لکھ کر ایک گلاس پانی میں ڈالیں اور عامل عزیمت کو پڑھے انشاء اللہ مؤکلات گلاس کے اندر پانی میں نظر آئیں گے اور اشارات میں جواب دیں گے اور بچہ یا مریض کے کان میں سرگوشی کر کے آواز کے ساتھ جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ نایاب عمل آپ کو کرنے کی توفیق دے۔ آمین

روحانی عملیات

تسخیر نیلم پری

☆......ازتحریر: قیصر احمد بی۔اے۔کراچی

اس سے قبل کہ ہم تسخیر پری کا عمل بیان کریں لفظ پری پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے۔ جنات میں مختلف طبقات ہوتے ہیں ح جنات میں جو عورتیں بدکردار اور بدقماش ہوتی ہیں وہ چڑیلیں کہلاتی ہیں۔ یا پھر بدروحوں کو چڑیل کہا جاتا ہے۔ جنات میں شاہی گھرانوں کی عورتوں کو ''پری'' سے تعبیر کیا جاتا ہے کیونکہ یہ معیاری خاندان سے تعلق رکھتی ہیں اور بالعموم خوبصورت بھی ہوتی ہیں۔ ''پری'' کے لفظی معنی خوبصورت کے ہیں۔ خوبصورت لڑکی' پری چہرہ' پری پیکر اور اچھے گھر کو ''پری خانہ'' کے الفاظ عام طور پر استعمال کئے جاتے ہیں۔ جہاں تک اُڑنے کی بات ہے تو جنات کو اللہ نے اُڑنے کی صلاحیت دی ہے۔ حضرت سلیمانؑ کی فرمائش پر ایک جن نے پلک جھپکتے ہی ملکہ بلقیس کا تخت لاکر رکھ دیا تھا وہ اُڑ کر ہی لایا تھا۔ ''پری'' سے مراد پروالی عورت نہیں ہے بلکہ پری سے مراد خوبصورت اور خاندانی جننی ہے جسے محاوراتی زبان میں پری کہا جاتا ہے۔ پری کے جو دو پر تصویروں میں بنائے جاتے ہیں وہ محض تخیلاتی چیز ہیں۔ اللہ نے جنات میں جو اُڑنے کی صلاحیت دی ہے وہ صلاحیت پروں کی محتاج نہیں ہے اُن کے بازو خود پروں کا کام کرتے ہیں لیکن تصویروں میں پریوں کے پر دکھائے جاتے ہیں جو صرف تصوراتی وخیالاتی چیزیں ہیں۔ پری کا پروں سے کوئی تعلق نہیں پری کے پر نہیں ہوتے بلکہ ''پری'' کے معنی خوبصورت کے ہیں اکثر آپ نے سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ کسی عورت کو محبت و جذبات میں آکر کہتے ہیں کہ آپ پری ہیں۔ یہاں پری کے معنی محاوراتی زبان میں خوبصورت کے ہیں۔ پری پر ایک شعر ملاحظہ کیجئے:

ہے فصل بہار۔ بہتا دریا' سبزہ
پریوں کا بھی جھرمٹ ہے آہاہاہاہا!!

اب ہم اپنے خاص مقصد کی طرف آتے ہیں یعنی تسخیر ''نیلم پری'' کے عمل کی طرف۔ عمل اس کا مندرجہ ذیل ہے۔

لَا اِلٰہَ کا کوٹ اِلَّا اللّٰہ کی کھائی نیلم پری جلد حاضر ہو تجھے کلمہ محمدؐ کی دُھائی۔

طریقہ زکوٰۃ اس کا اس طرح ہے کہ نوچندی جمعرات کو رات بارہ بجے بہتے پانی 'دریا' نہر کے کنارے بیٹھ کر مذکورہ بالا عمل کو 2583 بار 40 یوم تک باپرہیز پڑھیں اول وآخر 101 بار درود شریف پڑھیں۔ دورانِ عمل خوفناک مناظر سامنے آئیں گے۔ مگر آپ اُن پر بالکل توجہ نہ دیں بلکہ عمل جاری رکھیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سیلاب آ رہا ہے مگر آپ بلاخوف وخطر قائم مزاجی ومستقل مزاجی اور یکسوئی سے عمل برابر پڑھتے رہیں۔ عامل کے پاس کوئی چیز نہ آئے گی آخری یوم یعنی چالیسویں دن ''نیلم پری'' آپ کے سامنے حاضر ہوگی اور کہے گی کہ مجھے کیوں یاد فرمایا ہے؟ بس عامل اپنا مدعا بیان کرے اور مناسب معاہدہ طے کرے اور حاضری کا طریقہ بھی دریافت کرلے ہر کام پلک جھپکتے ہی سرانجام دے گی۔ اس عمل کی اجازت کسی عامل کامل یا پھر قبلہ شاہ زنجانی صاحب سے خصوصی اجازت لیکر ہی عمل کریں۔

حاضرات سندونی

سندونی کی حاضرات کا ایک آسان عمل پیش خدمت ہے۔ یہ طریقہ میرے معمولات میں سے ہے۔ اس حاضرات کیلئے پندرہ سال سے کم عمر کی لڑکی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ لڑکیوں کے علاوہ یہ حاضرات اور کسی پر نہ ہوگی۔ اگر کوئی ایسی لڑکی جس کی عمر 15 سال سے کم ہو تو ایسی لڑکی کو سب سے پہلے کہیں کہ وہ گیارہ مرتبہ مندرجہ ذیل عزیمت اور اول وآخر ۳/۳ بار درود شریف پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے لیکن اس عزیمت کو پڑھنے سے پہلے لڑکی پر ایک بار آیت الکرسی دم کر کے اس پر پھونک دیں۔ لڑکی کو پڑھوانے کی عزیمت یہ ہے جو کہ گیارہ مرتبہ پڑھائی جائے۔

رَھینَا سَرینَا بَرینَا سَفرِینَا کجٓ اَوٗ کجٓ سِریٔ

سَنْدُوْنِیْ تُنفر سَوْهَانَن بَرُوْجَا یَا غَوْثَ الثَّقْلَیْن یَا قُطْبِ رَبَّانِیْ سَیِّد مُحیُ الدِّیْن جِیْلَانِیْ بِاَحْضِرِ السَّاعَۃِ بِاِذْنِ اللّٰہِ تَعَالٰی o

اب بچی کو لٹا دیں اور اس پر اسم اللہ کی توجہ دیں اور ساتھ اسم اللہ کا مندرجہ ذیل نقش لکھ کر اس کے سر پر رکھ دیں۔ نقش یہ ہے:

١٦	١٩	٢٢	٩
٢١	١٠	١٥	٢٠
١١	٢٤	١٧	١٤
١٨	١٣	١٢	٢٣

تقریباً ۵ منٹ کے بعد بچی پر حاضرات شروع ہو جائے گی اسم اللہ کی توجہ سے آپ کو سندونی حاضر کرنا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں سب سے پہلے بچی کو سرسبز و شاداب کھیت اور باغ نظر آئے گا اور موسلا دھار بارش ہوگی۔ بارش کے بعد ایک میدان نظر آئے گا اور وہاں سندونی سیاہ کپڑوں میں ملبوس نظر آئے گی وہ ہاتھ باندھے گی اور کہے گی کہ مجھے چھوڑ دیں آپ کو توجہ مرکوز رکھنی ہے اور بچی سے کہنا ہے کہ اس کو روکے اس کے بعد وہ مختلف لباس پہن کر آئے گی۔ رقص و سرور کی محفل ہوگی۔ اس کے بعد اس کے ہاتھ میں ایک کتاب ہوگی جو معمول (بچی) کو دکھائے گی جس میں اس کے قبیلے کے مختلف افراد کی مختلف تصاویر ہونگی۔ اس کے بعد وہ ایک دوسری کتاب دکھائے گی۔ بچی کو کہیں کہ وہ غور سے دیکھے اس میں کیا لکھا ہے غور سے دیکھنے پر معلوم ہوگا کہ سورۃ اخلاص ہے بس حاضری مکمل اب آپ اُس سے پوچھیں کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اُس وقت اس نے پہلے سے اچھا اور عمدہ قسم کا خوبصورت لباس زیب تن کیا ہوگا وہ اپنا نام ''تنزیل'' بتائے گی اب آپ اس سے جو بات پوچھیں گے وہ آپ کو اس کا سو فیصد درست جواب دے گی اور جو کام اس کے سپرد کریں گے وہ فوراً بجا لائے گی۔ وہ لڑکی (بچی) کو کوئی میٹھی چیز جیسے حلوہ، مٹھائی وغیرہ بھی کھانے کو دے گی جس سے بچی کا منہ باقاعدہ میٹھا ہو جائیگا۔

تسخیر حسینہ پری

ازتحریر: نیاض حسین فیضی۔ سرائے عالمگیر

حاضرات کی دُنیا میں قدم رکھنے سے پہلے شائقین حاضرات کو یہ معلوم ہونا چاہئے کہ اس دُنیا کے بھی اپنے قانون ہیں اور جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کو سزا ملتی ہے۔ اس لئے پہلے کسی عامل کامل اُستاد سے حاضرات کے قواعد و قوانین سیکھیں پھر حاضرات کی دُنیا میں قدم رکھیں اصولاً ڈرائیور وہی ہوتا ہے جس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہوتا ہے لائسنس کے بغیر ٹریفک پولیس والے چالان کر دیتے ہیں اسی طرح حاضرات کا لائسنس آپ کی جیب میں ہونا چاہئے تاکہ کوئی آپ کی زندگی کا چالان نہ کر سکے۔ آج کی محفل میں قارئین آئینہ قسمت کیلئے حسینہ پری کی حاضری کا عمل پیش خدمت ہے۔ عبارت عمل مندرجہ ذیل ہے۔

اَجِبْ یَا شَاذِ مُوْخِ یَا بَازِ یُوْخِ یَا طُوْخِ

طریقہ حاضری اس کا یہ ہے کہ عروج ماہ نوچندی جمعرات سے اندھیرے کمرے میں عشاء کے بعد موم بتی جلا کر عبارت عمل 1485 مرتبہ پڑھیں کل سات یوم کا عمل ہے دوران عمل انڈہ، گوشت، مچھلی، جماع وغیرہ سے پرہیز کریں یاد رکھیں حاضرات میں کامیابی کیلئے پرہیز لازمی ہے صرف سات یوم کا عمل ہے ساتویں رات حسینہ پری آپ کی خدمت گاہ میں حاضر ہوگی حاضری کے وقت اکثر نکاح کی شرط رکھتی ہے۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے کسی عامل کامل سے اجازت لینا ضروری ہے اجازت کے بغیر سخت رجعت کا خطرہ ہے۔

☆...... بڑی عجیب بات ہے کہ جو انسان زندگی میں اپنے ہاتھوں سے پانی پینے کی زحمت بھی نہیں کرتا اگر اُسی انسان کو مرنے کے بعد بلایا جائے تو وہ مشکل سے مشکل کام بھی چند گھنٹوں میں کر دیتا ہے۔ کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کو کوئی غم نہیں کوئی دُکھ نہیں۔ ہر مرض کی کوئی نہ کوئی دوا ضرور ہوتی ہے اسی طرح ہر مشکل کا بھی ایک حل ضرور ہوتا ہے۔ اس لئے قارئین آئینہ قسمت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اچانک مصیبت آنکی صورت میں ایک آسان عمل پیش خدمت ہے۔ جس کا طریقہ یہ ہے کہ باوضو ہو کر قبرستان چلے جائیں کسی مرد کی قبر پر اول آخر تین تین مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ درمیان میں تین مرتبہ سورۃ فاتحہ تین مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں پھر ان سب کا ثواب صاحب قبر کو بخشیں۔ دعا کے بعد صاحب قبر کی قبر سے چٹکی بھر مٹی اُٹھا کر کہیں ''اے صاحب قبر میں تیری امانت لے کر جا رہا ہوں میرا کام (یہاں پر جو کام ہے وہ بولیں) ہو گیا تو میں تیری امانت تجھے واپس کر دوں گا یہ کہہ کر مٹی کو کاغذ میں بند کر کے گھر واپس آ جائیں جس روز کام ہو جائے پھر قبرستان چلے جائیں اسی طرح دعا کے بعد کہیں ''اے صاحب قبر میرا کام ہو گیا تیرا شکریہ' میں تیری امانت (مٹی) واپس تجھے لٹا رہا ہوں'' اگر زیادہ دیر

ہو جائے تو اسی صاحب قبر کے پاس جائیں جہاں سے مٹی لی تھی' دعا کے بعد اس کو بتائیں کہ میرا کام ابھی تک نہیں ہوا' میرا کام کر دے میں تیری امانت تجھے لٹا دوں گا اگر اللہ نے چاہا تو آپ کا کام جلد ہو جائے گا کیونکہ مسبب الاسباب صرف اللہ کی ذات ہے۔

دعوت سورۃ یٰسین

☆......از تحریر: شہزاد۔ کراچی

آج جو عمل آئینہ قسمت کی محفل میں لے کر حاضر ہوا ہوں وہ میرا اپنا تجربہ شدہ ہے۔ اس سورۃ کو ویسے بھی پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں اس عمل کا کوئی صاحب چلہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ چلے کے پورے قوانین سے واقف ہوں اور اگر کسی بزرگ کی سرپرستی میں کریں تو پھر چلے کے پورے ثمرات سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ بہرحال جو عمل میں پیش کر رہا ہوں اس کو آپ چلہ نہیں کہہ سکتے لیکن جس طریقے سے آپ اس عمل کو سرانجام دیں گے وہ کئی چلوں سے زیادہ سخت ہے۔ عمل کو مکمل طور پر سمجھ کر ہی سرانجام دیں۔

پرہیز: گوشت کسی بھی قسم کا مکمل طور پر بند کر دیں' بدبودار اشیاء سے مکمل پرہیز کریں۔ شریعت مطہرہ کا پرہیز کریں جو کئی جلالی و جسمانی پرہیز سے مشکل ہے۔ اپنی زندگی کو ایسے گزاریں جیسے ہمارے رسول ﷺ نے گزاری ہے۔ اس پرہیز کو اپنی زندگی میں مکمل طور پر اپنایئے اور ہر مہینے کی نوچندی جمعرات اور 15,14,13 کو روزہ نفلی رکھا کریں اور یہ کوئی 40 دنوں کے لئے نہیں کرنا بلکہ اسے آپ کو ایک دفعہ شروع کرنے کے بعد بند نہیں کرنا ہے۔ تہجد کی نماز لازمی پڑھنا ہو گی اور عمل کو بھی تہجد کی نماز پڑھ کر ہی شروع کیا جائے گا۔

عمل: تہجد کی نماز پڑھ کر 3 مرتبہ یا 1 مرتبہ سورۃ یاسین مبین درمبین اول و آخر درود ابراہیمی 11 بار کی تلاوت سورۃ یٰسین کا فیض و مؤکلات سورۃ یٰسین کی دوستی کی نیت سے پڑھیں۔ اپنے پاس اچھی قسم کی اگربتی ضرور روشن کریں۔ کپڑوں پر عطر لگائیں۔ کوشش کریں کہ زیادہ وقت باوضو رہا کریں۔ عمل کو مکمل کر کے درود ابراہیمی 11 بار پڑھ کر دعا کریں۔ مخصوص دعا یہ ہے:

''یا اللہ جو سورۃ میں نے تلاوت کی ہے اس میں مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اپنے حبیب کے طفیل معاف فرما اور اس پڑھی ہوئی سورۃ کو قبول فرما''

اور یہ تحفہ پنجتن پاکؑ کی خدمت میں پیش کر کے تمام انبیاء اولیاء تبع تابعین کو تحفہ پہنچائیں اور ارواح مؤکلات کو تحفہ پیش کریں۔ جمیع امت مسلمہ مسلمین کو بھی ثواب پہنچائیں اور اللہ سے اس سورۃ کا فیض جاری کرنے کے لئے دعا مانگیں انشاء اللہ آپ کو خود پتہ چلے گا کہ آپ کو فیض کیسے جاری ہو رہا ہے۔ آخر میں جو صاحب بھی اس عمل کو کریں وہ شہزادہ سید انتظار حسین شاہ زنجانی صاحب کے والدین اور میری والدہ کو سورۃ یٰسین پڑھ کر ایصال ثواب کریں۔

نوٹ: عمل شروع کرنے سے پہلے سوا لاکھ بار استغفار پڑھ کر ختم کریں اور سوا لاکھ کلمہ طیبہ اور درود ابراہیمی پڑھ کر اس کا ثواب پنجتن پاکؑ کو تحفتاً پیش کریں۔

صدری عمل حب برائے مؤکل

یا عزیز یا قادر فلاں بن فلاں کو فلاں بن فلاں کے پاس حاضر کرو بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بحق توریت' زبور' انجیل' فرقان حمید. بحق چہار مؤکل جبرائیل' اسرافیل' میکائیل' عزرائیل بحق چہار خلفاء بحق چہار طرائق بحق یک مرد غوثؓ یک مرد فقیر بحق پنجتن پاکؑ ادر کنی فی سبیل اللہ آمدولی یا علیؑ یا علیؑ یا علیؑ۔

اس وقت صرف حب کے عمل کی ترکیب لکھ رہا ہوں آئندہ کسی شمارے میں پھر اس عمل کے مؤکل کی حاضری کی ترکیب بھی بیان کروں گا۔

توشہ: اڑھائی کلو مٹھائی چم چم گلاب جامن لونگ قاقلہ صفاء جوڑا سات پان سالم کٹا پھٹا نہ ہو۔ 7 گلاب کے پھول' عصارہ خرد اور گوگل کا بخور صندل ابیض یا صندل احمر کی اگربتی 7 پھایا عطر گل یا مشک' ایک عدد بڑا چراغ روغنی تیل چنبیلی یا تیل آدھا یا ایک کلو زعفران سے عمل کو لکھ کر فلیتہ بنائیں اور چراغ میں جلائیں۔ 21,11,7,3 یوم میں کام ہو جائے تو بھی عمل کو پورا کریں۔ اس عمل کو 14 دن تک متواتر کریں۔

مطلوب کے اعداد میں اس کے نام کے حروف سے ضرب دے کر جو تعداد آئے اس کو بعد نماز عشاء وقت مقررہ پر اول و آخر درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر عمل کی تعداد سینکڑوں میں آئے تو ہر 100 کی تسبیح کے بعد دو عدد لونگ کے جوڑے آگ پر دہکائیں اور دو عدد قاقلہ صفاء اور دو بار گل کے عمل پڑھتے وقت روزانہ رکھیں۔ سوا گز کے تین کپڑے لال' ہرا' کالا تینوں سوتی ہوں ایک دوسرے پر کپڑا رکھ کر سامنے رکھیں۔ عمل پڑھتے وقت سرخ رنگ کی جائے نماز بچھائیں۔ کالا عمامہ یا علیؑ کہہ کر سر پر رکھیں اور یا علیؑ کہہ کر اتاریں۔ دودھ کا

شربت بنا کر فاتحہ میں رکھیں۔ شربت ہرگز کسی کو نہ دیں بلکہ خود پئیں۔ ساڑھے چار میٹر کا امامہ پہنیں۔ پرہیز جلالی و جمالی کریں۔ عمل کی جگہ پر کسی کو نہ آنے دیں۔ دوران عمل کوئی خواب یا نیاز نذر کی طرف اشارہ ہو تو فوراً دیں بصورت دیگر نقصان کا احتمال ہے۔ فاتحہ اس طرح دیں۔ پہلے دن فاتحہ دیں تمام سامان سامنے رکھ کر تمام انبیاء اولیاء صوفیاء کرام درویش' شہداء کربلاؒ' تابعین' مومنین والمومنات' مقربین چہار موکل' چہار طرائق' پنجتن پاکؑ تمام موکل علوی تمام اجناء ابو یوسف موکل شہنشاہ جنات شاہ یکنانوش ابو الاحد عبدالرحمٰن اور تمام مسلمان' تمام بزرگان دین کو درجہ بدرجہ ثواب پہنچائیں۔ آخر میں اس عمل کے موکلات کو ثواب پہنچائیں۔

لوح محفوظ

☆......عبدالعزیز چشتی۔ شورکوٹ

لوح محفوظ اس مقدس اور انمول تختی کا نام ہے جس پر کاتب تقدیر اپنے نورانی اور مسیحائی ہاتھوں سے ہماری قسمت' مقدر' نصیب' ماضی' حال' مستقبل' غربت' خوشحالی' زندگی' موت' خوشیاں' غم' کامیابیاں' ناکامیاں' امن' جنگیں' جوڑی نجوگ' رشتے' دوستیاں' نفرتیں' عداوتیں' پیار' محبت' خلوص' ہمدردیاں' تعاون' اعتماد' ہجرتیں' قیام' روزی' کاروبار' فاصلے' دوریاں' قربتیں' ہجر' فراق' وچھوڑے' جدائیاں' سفر' نیکیاں' پردیس' خوش اخلاقیاں' ظلم' جبر' تشدد' مصیبتیں' ڈر' خوف' دولت' عزت' شہرت' موسم' آفات' سیلاب' زلزلے' طوفان' عذاب' بارش اور بیماریاں تحریر کرتا ہے۔ لوح محفوظ پر ہماری ایک ایک سانس اور حرکت کا اندراج ہے۔ لوح محفوظ ہماری زندگیوں سے وابستہ تفصیل حال احوال اور واقعات کا ریکارڈ روم ہے جہاں ہر چیز پہلے ہی درج کر دی گئی ہے۔

لوح محفوظ ایک خفیہ دستاویز' منشور اور راہ عمل کا نام ہے جس پر تمام پروگرام لکھ دیئے گئے ہیں۔ لوح محفوظ کو ہر آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ پیغمبروں' رسولوں' نبیوں' غوثوں' ولیوں اور اللہ کے نیک بندے ہی لوح محفوظ کو باآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ وہ اپنے علم بصیرت ادراک اور وسیع النظری کے ساتھ اس پر لکھے حالات جان سکتے ہیں۔ روحانی علوم کے دائرے بڑے پرطویل' عریض اور وسیع ہوتے ہیں۔ ماتھے پر لکھی تحریریں' ہاتھوں پر بنی لکیریں صرف اہلیان نظر ہی پڑھ کر اصل جانکاری دے سکتے ہیں۔ اللہ اپنی رحمتوں سے اپنے بندوں کو نوازتا ہے۔ روحانی علوم میں علم جفر' علم نجوم' مراقبہ' فال' پامسٹری' علم الاعداد' نفسیات' تعبیرات اور روحانی عملیات شامل ہیں۔

اللہ والے ایک نظر میں تقدیر بدل دیتے ہیں۔ خاک ذروں کو ستارے بنا کر اُن میں نئی چمک اور روشنیاں بھر دیتے ہیں۔ عامل کامل اور مرد مومن کی نگاہیں طوفانوں کے رُخ موڑ دیتی ہیں۔ ناممکنات کو ممکن بنا دیتی ہیں۔ یہ صلاحیتیں' خوبیاں اور خصوصیات اللہ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے اور انہیں اختیارات کی دولت سے نوازتا ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ ان کے طفیل بہت سے لوگوں کا بھلا ہو جاتا ہے۔ لوح محفوظ تک پہنچنے والے ہر دور میں بہت کم تعداد میں رہے ہیں۔ لیکن اُن کے نام آسمانِ شہرت کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں۔ کسی عامل کامل سے اپنے حالات جاننے کیلئے رجوع کرنا گناہ نہیں ہے۔ مُلا فتوے دے دیتے ہیں کہ پامسٹ کو اپنا ہاتھ دکھانا گناہ ہے۔ وہ لوگ موسموں' زلزلوں' جیت ہار اور سیاسی پیش گوئیاں تو تسلیم کر لیتے ہیں لیکن روحانی علوم کے نتیجے میں کہی جانے والی باتوں کو اہمیت نہیں دیتے یہ ہٹ دھرمی نہیں تو اور کیا ہے؟

شعبدات

☆......از تحریر: علامہ طالب حسین کرمانی۔ چک مغل

قارئین کرام میں آپ کو شعبدات و اعمال عجیبہ یعنی علم سیمیا و عملیات وغیرہ کے متعلق چند مجرب معروضات پیش کر رہا ہوں۔ آپ ان کا تجربہ کریں انشاء اللہ صحیح و درست پائیں گے۔ **(1)** ٹکڑہ کافور کا روشن کر کے پانی میں ڈال دیں تو برابر جلتا رہے گا یہ مجرب ہے۔ **(2)** خون کبوتر میں آب شاہترہ ملا کر لکھیں تو دن کو حروف دکھلائی نہ دیں گے رات کو حروف دکھلائی دیں گے۔ **(3)** آک کے درخت کے دودھ سے کاغذ پر قلم سے لکھیں اور خشک ہونے کے بعد اس کاغذ کو مٹی کے تیل کے چراغ جلتے ہوئے کے اوپر سیاہ کر لیں اس کے بعد اس کاغذ کو کسی چیز سے صاف کر لیں حروف سیاہ نظر آئیں گے۔ مجرب ہے بعض جعلی عامل اسی طرح ڈرامہ کیا کرتے ہیں۔ **(4)** اگر ہڑتال اور مین پھل گائے کے مسکہ میں سات گولیاں بنا کر ایک ہفتہ طاؤس کو کھلائی اور ہفتہ کے دن اس کی بیٹھ ہتھ میں طلا کریں جو کچھ از قسم زر یا نقرہ ہاتھ پر رکھیں کسی کو دکھائی نہ دیگا۔ **(5)** گھونگچی سفید پانی میں گھس کر کھڑاؤں پر طلا کریں اور خشک کر کے پاؤں اپنے دھو کر اس پر رکھے بغیر کھونٹیوں کے چلنے لگے گا۔ **(6)** زبان مینڈک کی پارہ کتان میں لپیٹ کر خوابیدہ کے سینہ پر یا بالیں کے نیچے رکھ دیں رازِ دل کل بیان کرنے لگے گا۔ **(7)** سفیدی بیضہ مرغ اور شب یمانی اور نمک سب کو حل کر کے کپڑے پر ملیں اور پھر اس میں آگ کے انگارے اٹھائیں کپڑا نہ جلے گا۔ **(8)** منہ میں آگ رکھیں اور منہ نہ جلے پہلے نوشادر' عقر قرحا کافور قدرے چبا کر آگ منہ میں رکھیں آگ کا کچھ اثر نہ ہوگا۔ **(9)** بکری کو زمین پر لٹا کر اس کے

گلے پر جوتی رکھ دیں تو وہ اس طرح پڑی ہوئی چلائے گی۔ (10) اگر گندھک اور ہڑتال اور اجوائن ان کو شیر آک میں بھگو کر اس میں کوئی اناج تر کر کے جس کسی جانور کو کھلائیں بیہوش ہو جائے گا۔ (11) گندھک، آملہ سار، خون چڑیا، منوالی اور سانپ کی کینچلی ان ہر سہ اشیاء کو برابر لے کر کوفتہ بیختہ کر کے فتیلہ بنا کر چراغ میں روشن کریں جس مکان میں یہ چراغ جلے گا وہ مکان بالکل پر از آب معلوم ہوگا۔ (12) خراطین یعنی کینچوا مٹی سے صاف کر کے اس میں سیندور بھر کر روئی لپیٹ کر بتی بنا کر روشن کریں پس اس مکان میں زرد ہی زرد روشنی ہوگی۔ (13) اتوار کو جس جگہ گدھا لیٹے اس جگہ کی مٹی لے کر کسی کے دستر خوان کے نیچے رکھ دیں خوب ہنسی ہوگی۔ (14) کپڑا مثل آگ کے نظر آئے۔ بروز منگل ہڑتال، گندھک، سیندور ہم وزن ہمراہ پانی کے پیس کے رات کو اگر کپڑے پر مالش کریں تو وہ کپڑا آگ معلوم ہوگا۔ (15) اگر جلے ہوئے کاغذ کو پڑھنا ہو تو اس پر سلفیورک ایسڈ ڈالیں تمام حروف پڑھے جائیں گے۔ (16) اگر بلی کا منہ کالا کر کے شیشہ دکھائیں تو وہ پھر اس جگہ نہ آئے گی۔ (17) سرکہ انگوری میں انڈے کی زردی حل کر کے کاغذ پر مل کر دھوپ میں رکھ دیں کاغذ سے تمام حروف اڑ جائیں گے۔

(18) آندھی میں چراغ گل نہ ہو۔ باریک کپڑا لے کر اس میں قدرے گندھک لپیٹ کر چراغ میں ڈال دیں اس میں تیل تارپین ہو اور پھر اس کے گرد سفوف پھٹکڑی سفید گندھک زرد بھی ڈال دیں چراغ ہوا میں نہ بجھے گا۔ (19) ایک گلاس میں ایک انچ کم پانی بھر لیں اس کے اوپر چھلکا اسپغول ڈال کر تہہ بن جائے اس کے اوپر فاسفورس کا باریک کپڑا رکھ دیں تو پانی میں آگ روشن ہوگی۔ فاسفورس پان میں رکھنا چاہئے باہر نکالیں گے تو فوراً آگ لگ جائے گی لوگ مجھے روہی کے علاقہ چک ۱۴۳ میں لے گئے تو وہاں ایک آدمی بہت مشہور تھا کہ جادو سے آگ لگا دیتا ہے کہ کپڑے راکھ ہو جاتے ہیں۔ وہ اس طرح کرتا تھا کہ فاسفورس کا ٹکڑا پہلے منہ میں رکھ لیتا پس کچھ فرضی منہ میں پڑھتا پھر منہ میں کپڑا لیتا اور فاسفورس کا باریک ٹکڑا اس کپڑا کو لگا دیتا پھر اٹھا کر نیچے رکھ دیتا تو فوراً آگ لگ جاتی اور کپڑا راکھ ہو جاتا۔ (20) تقریباً ایک کلو صاف ریت لوہے کی کڑاہی میں ڈال کر چولھے کے اوپر رکھ دیں نیچے آگ جلائیں جب ریت گرم ہو جائے تو ایک چمچی دیسی گھی اور تقریباً 50 گرام موم ڈال دیں اس ریت کو کسی چیز سے ہلاتے رہیں تا کہ تمام ریت کو موم لگ جائے اس کو نیچے اُتار کر ٹھنڈا کر لیں یہ ریت سرخ رنگ کی ہو جائے گی اور اس ریت کو پانی میں ڈالیں اور پھر فوراً نکالیں تو سوکھی ریت ہوگی، مداری اسی طرح کرتے ہیں۔ (21) دار چکنا کو کناری میں لپیٹ کر ہتھیلی پر رکھ کر مٹھی بند کر لیں یہ اتنا گرم ہوگا کہ آگ لگ کر راکھ ہو جائے گی مجرب ہے۔

اعمال عجیبہ

(1) واسطے حب کے مکرر سہ کرر تجربہ میں آ چکا ہے کافور بے کار شدہ اور نصف حصہ قرنفل کا موافق مراتب کے ترکیب کریں ایک عدد اس وقت میں لیں کہ آفتاب گرہن میں ہو، تالاب یا حوض یا دریا میں اسی وقت غوطہ لگا کر نکال لیں اور پھر کھڑے رہیں اور آفتاب کو دیکھتے رہیں جب گرہن ہٹ جائے تو گھر آ کر براز کا خیال رکھیں اس میں سے وہ ثمر مذکور نکال کر سنبھال رکھیں جس کسی کو قدرے مٹھائی میں کھلائیں وہ تابعدار ہو جائے اور اگر یہ عمل عورت نے کرنا ہو تو اس کو تالاب وغیرہ پر جانا چاہئے صرف اس وقت ہی وہ ثمر کو اپنے جسم میں رکھے اور ختم ہونے پر نکال کر کام میں لائے نہایت مجرب ہے۔ اس کو مسلمان نہ کریں ورنہ گنہگار ہوں گے یہ شریعت کے خلاف ہے۔

(2) یہ محبت کیلئے اکسیر ہے اتوار کے دن کتیا کا دودھ ایک پیالہ میں لے کر اس میں کچھ چاول ساٹھی کے ڈال کر خشک کریں جب سب دودھ خشک ہو جائے تو ان چاولوں کو لے کر کسی حیض آلودہ کپڑے میں ڈال کر وہی آدھا کپڑا اوپر رکھیں جب دانے بالکل خشک ہو جائیں تو اُن کو سنبھال کر رکھیں پس جس آدمی کو اپنا تابعدار بنانا ہو تو ایک چاول مٹھائی میں رکھ کر کھلا دیں اس سے وہ شخص محبت کریگا۔ اس کو مسلمان نہ کریں۔

(3) کچا سوت جو کہ کنواری لڑکی کا کاتا ہوا ہو، اتوار یا منگل کے روز لیں اور کنجشک جتنی جتنی دفعہ ہوتا ہو اس میں گرہ دیں پھر اس کو سنبھال کر رکھیں اس میں دو فائدے ہیں۔ فائدہ اول اگر اس کو بر سرِ راہ ڈال دو اور جو عورت اس پر سے گزرے گی فوراً ازار بند اس کا ٹوٹ جائے گا دوسرا فائدہ اگر کسی عورت سے زیادہ محبت کرنی ہو تو کسی طرح اس کے بازو پر باندھ دو بہت محبت کرے گی۔

(4) اگر کسی کا لڑکا بہت روتا ہو تو ذیل کے اسم کو لکھ کر تعویذ بنا کر بچے کے گلے میں ڈالیں بفضل خدا کبھی نہ روئے گا۔

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْم یا قدوس یا قدوس یا قدوس یا قدوس یا قدوس یا قدوس یا غفور یا غفور یا غفور یا غفور یا غفور یا غفور ط ط ط ط ط ط لا لا لا لا لا لا لا ٥٥٥٥٥٥٥ برحمتک یا الرحم الرحمین٥

(5) اگر کسی عورت کا حمل خام گر پڑتا ہو اس کو ہر روز 9 ماہ برابر اللہ یا اللہ یا محمد کاغذ پر لکھ کر پلائیں اور یہ نقش لکھ کر گلے میں ڈالیں بفضل خدا حمل نہ گرے گا۔ میرا ہزار ہا آزمودہ ہے۔

(6) اگر کسی کو آدھے سر کا درد رہتا ہو تو اس کے سر کو پکڑ کر سات مرتبہ دم

کرنے سے آرام آ جائے گا۔'' کالا چڑا کل سرا کالے بن کو جائے آ محمدؐ چاپ دے آدھے سر کا درد جا۔''

(7) عمل ہر کام کیلئے نیت کر کے شروع کریں بہت جلد مراد حاصل ہوگی۔ ہر روز سو یا دو سو مرتبہ صبح یا شام کو اول آخر درود شریف پڑھیں۔

یا مصطفیٰ محمدؐ یا مرتضیٰ علیؑ حاجت روا محمدؐ مشکل کشا علیؑ

(8) ہر مشکل کیلئے اس عمل کو صبح بعد نماز فجر یا بعد نماز عشاء غسل کر کے کم از کم چھ سو مرتبہ ضرور پڑھیں مشکل آسان ہوگی۔ ترقی ہر کام میں ہوگی۔ اسم یہ ہے:

اِنَّهٗ مِنَ السلیمان وَ اِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ○

حب بذریعہ حروف صوامت

از تحریر: شاہد الیاس سلیمی۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ

علم الجبر میں حروف کی سائنس نہایت دقیق اور دلچسپ ہے جو حیران کن اثرات کی حامل ہے۔ جوں جوں اس کی گتھیاں سلجھائیں حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں۔ انسانی عمل بسا اوقات چکرا کر رہ جاتی ہے۔ اس علم کی بنیاد ابجد کے اٹھائیس حروف پر ہے۔ یہی اٹھائیس حروف کم و بیش تمام دُنیا کی زبانیں اور علوم میں کوئی زبان حروف سے باہر نہیں' یہ تقسیم ایک الگ ہے کہ کسی زبان میں کتنے حروف استعمال ہوتے ہیں۔ علمائے جفر نے حروف کی بے شمار طریق پر تقسیم کی ہے ان میں ہر تقسیم مخصوص اثرات کی حامل ہے۔ ان میں حروف نورانی' ظلمانی' اہمط' بدوح' صوامت' شفا' روسا' زبر بنیات' ملفوظی' مکتوبی' ناطقہ' مسروری' علت' وتر وغیرہ بہت مشہور ہیں یہ وہ مشہور اقسام ہیں جن کی عملیات کے امور میں مدد لیتے ہیں ان کے علاوہ اور جو اقسام ہیں وہ اخبار میں کام آتی ہیں بعض عملیات میں بھی کام دیتی ہیں لیکن عملیات میں صرف حل مقصد ہوتا ہے۔ ذاتی قوت شمار نہیں کی جاتی۔ کسی شخص کے نام میں کس قدر نورانی حروف ہیں اور کس قدر ظلمانی۔ کس قدر علوی ہیں اور کس قدر سفلی یہی اس نام کا راز ہے تمام انسانوں میں اسی میں اُس کا نصیب ہوتا ہے۔ جفر میں وہ حروف جو بے نقطہ کے ہیں حروف صوامت کہلاتے ہیں۔ (اح د ر س ص ط ع ک ل م و ہ) صامت کے معنی چپ یا سکوت کے ہیں۔ صوامت' صامت کی جمع ہے یہ عقود کے امور میں بے حد موثر اور فوری نتائج برآمد کرتے ہیں بشرطیکہ آپ نے ان کی زکات ادا کر رکھی ہو تو۔ ہم نے جس ترتیب سے یہ حروف تحریر کئے ہیں یہ تقسیم ابجد شمسی سے مقرر کی ہوتی ہے کیونکہ شمس سریع الاثر ہے نیز اس کی تاثیر ایک منٹ سے چوبیس گھنٹہ کے اندر اندر ظاہر ہوتی ہے۔ اسلئے اساتذہ کرام نے اسی سے کام لیا ہے مگر جو طلسمات یا نقوش وضع کئے جاتے ہیں وہ ابجد قمری کے حروف سے استخراج کئے جاتے ہیں۔ زکات اور اس کے دیگر پہلوؤں پر ہم آئندہ کسی نشست میں تفصیل سے گفتگو کریں گے اس بار ان حروف سے حب کے سلسلہ میں مدد لینے کا ایک برسوں کا معمول اور بے خطا طریق بیان کر رہا ہوں جسے ہر ضرورت کے وقت فرد اپنے لئے ذرا سی محنت کر کے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ خیال رہے اس عمل میں صوامت کے تین اور ایک نورانی حرف ہے۔ احتیاط: یہ عمل محرم الحرام اور رمضان المبارک میں غیر موثر ہوگا۔ آپ ان دو ماہ کے علاوہ باقی سارا سال کام لے سکتے ہیں۔ عمل تہارہ کر سرانجام دیں۔ عمل کا کسی سے تذکرہ نہ کریں ورنہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ عمل نوچندی اتوار یا جمعرات کے دن بشرطیکہ اس دن ہبوط قمر نہ ہو شروع کریں۔ کھانے پینے کی کوئی پرہیز نہیں ہے جو مذہب نے حلال کر رکھا ہے کھایا جا سکتا ہے۔ تفصیل عمل: کسی پرانے قبرستان میں جا کر لمبی ٹانگوں والے کیڑوں کا بل تلاش کریں۔ جب بل مل جائے تو اس میں کافی مقدار میں پانی ڈالیں۔ حتیٰ کہ اس سے بچھو برآمد ہو۔ یاد رہے کہ ہر مکوڑوں کے بل میں ایک بچھو ہوتا ہے۔ یہ اچھا خاصا صحت مند ہوتا ہے۔ اسے عرف عام میں مکوڑوں کا بادشاہ کہتے ہیں۔ اپنے ساتھ قبرستان جاتے وقت نسوار والی بالکل نئی خالی ڈبیہ ایک قینچی' ایک دست پناہ ضرور لیتے جائیں۔ جب بچھو برآمد ہو تو اسے دست پناہ سے پکڑ کر قینچی کی مدد سے اس کا ڈنگ فوراً کاٹ کر اس نسوار والی ڈبی میں جو آپ کے پاس ہے میں محفوظ کر لیں۔ یہ سارا کام کرتے وقت آپ باوضو ہونگے جسم پر معطر لباس ہو۔ اب جس دن آپ نے ڈنگ حاصل کیا اس رات بعد از عشاء لباس سمیت ایسے پاک پانی میں کھڑے ہوں جو آپ کی ناف سے اوپر تک رہے۔ اس ڈنگ والی ڈبیہ اپنے بائیں ہاتھ میں لیں اور یہ پانچ حروف ''ق۔ ہ۔ م۔ ن۔ ص'' کو ایک ہزار مرتبہ پڑھیں۔ جب یہ تعداد مکمل کر لیں تب انہیں معکوس بھی اتنی تعداد میں پڑھ لیں۔ اس معکوس تعداد کی پڑھائی ابھی مکمل نہ ہوگی کہ آپ کو ڈبیہ میں ٹک ٹک کی آواز سنائی دے گی۔ گھبرائیں نہیں اپنی تعداد مکمل کریں یہ آواز شدید بن جائیگی۔ پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اپنے مطلوب کا نام مع والدہ تین مرتبہ لیں اور کہیں کہ فوراً حاضر ہو۔ (یاد رہے کہ مطلوب کا آپ کی رہائش گاہ سے واقف ہونا ضروری ہے۔ عدم واقفیت عمل کام نہ دے گا) اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا پڑھائی کے بعد خاموشی سے بغیر مڑ کر دیکھے گھر چلے آئیں اب لباس تبدیل کریں اور خاموشی سے سو جائیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ دوسرے روز سورج غروب ہونے سے قبل مطلوب آپ کے پاس

حاضر ہوگا۔ بشرطیکہ اتنا فاصلہ ہو کہ وہ اتنی مدت میں باآسانی وہاں آسکے اب اس ڈبیہ کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کریں۔ یہ زندگی بھر کام دے گی جب بھی کسی کو بلانا مقصود ہو حروف پڑھیں پھر نام مطلوب مع والدہ پکاریں اور پھر معکوس پڑھیں مطلوب عرصہ مسافت سے اس جگہ پہنچ جائیگا جہاں آپ رہائش پذیر ہیں۔ یاد رہے ایسے عملیات شعبدہ بازی اور سرِ محفل اپنی علمی دھاک بٹھانے یا کسی شریف زادی کو بے آبرو کرنے کے لئے نہیں ہیں بلکہ اس جگہ جہاں اخلاق' معاشرہ اور مذہب اجازت دے استعمال کریں یونہی اناپ شناپ نہ کریں' عمل تو کام کر جائے گا مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنی رسوائیوں سے بھی دامن نہ بچاسکیں گے۔ یہ عمل دریا یا نہر کے علاوہ کسی اور پانی مثلاً تالاب یا چشمہ پر کام نہ دے گا۔

دفع سحر' آسیب و جنات کا قدیم روحانی عمل

☆......از تحریر: غلام کبریا۔ کندیاں' میانوالی

قارئین محترم! قبل ازیں دیگر خیر کے موضوعات پر لکھنے کے علاوہ بندہ احقر نے عنوان بالا پر کئی مرتبہ تحریر کیا ہے۔ دراصل اعمال شر کی نسبت' اعمال خیر میرا پسندیدہ موضوع اس لئے ہے کہ کم از کم اس سے نقصان کسی کا نہیں ہوتا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اعمال خیر کی نسبت شر کے اعمال بہت جلد اثر پذیر ہوتے ہیں۔ اعمال شر پر تحریر کرنے سے خوف اس لئے آتا ہے کہ کہیں کوئی نابلد اپنی جھوٹی تسکین کی خاطر کسی دوسرے بے گناہ کا نقصان نہ کر بیٹھے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اعمال شر کے جلالی اعمال کا ڈنگا ہوا شخص زندگی بھر سکون نہیں پاتا۔ زیر نظر عمل سحر و شیطانی اعمال کے خاتمہ جیسے کچھ گھروں میں اچانک پتھر آنا شروع ہو جاتے ہیں' کپڑوں میں آگ بھڑک اُٹھتی ہے گھروں میں خون کے چھینٹے پڑنے لگتے ہیں یا کبھی کبھی گوشت پوست کے ٹکڑے پڑے ملتے ہیں جانوروں کا دودھ کڑوا ہو جاتا ہے یا اُس میں پیپ سی آنے لگتی ہے یا ایسا گھر جس کو ارواح بد' آسیب و جنات وغیرہ اپنا مسکن بنا لیتے ہیں اور گھر کے اصل مکینوں کا جینا حرام کر دیتے ہیں ان تمام مسائل کیلئے تیغ بے نیساں کا کام دیتا ہے۔

لوازمات: (۱) بالکل کوری چھوٹی سی ہنڈیا جس کا منہ تنگ ہو۔ (۲) ہنڈیا کا ڈھکن جس کا اوپر کا حصہ صاف ہو یعنی پکڑنے والی کوئی چیز نہ بنی ہو اور ہنڈیا کے منہ پر بالکل پورا آئے۔ (۳) سات قسم کا اناج (ہر ایک چیز بوزن گیارہ گیارہ چھٹانک)۔ (۴) سیاہ ململ کے کپڑے کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے (جن کو قینچی سے نہ کاٹا گیا ہو اور نہ ہی سوئی لگی ہو) (۵) سوائے گلاب کے دیگر سات اقسام کے پھول (پھر ایک گیارہ گیارہ عدد)۔ (۶) سات اقسام کے تھوڑے سے پھول بغیر گنتی کے (علیحدہ رکھنے ہیں)۔ (۷) گیارہ گیارہ عدد چھوٹی بڑی الائچی' چھالیہ' پھولدار لونگ (۸) مریض کی عمر کے مطابق سفید لٹھہ اتنی گرہ مثلاً اگر مریض کی عمر پچیس سال ہے تو علیحدہ سے پچیس گرہ کپڑا منگوائیں۔ (۹) مریض اگر مرد ہے تو اس کے سر سے لیکر دائیں پاؤں کے انگوٹھا تک سفید لٹھہ اور اگر عورت ہے تو اس کے پیٹھ کی طرف سر سے لیکر بائیں ٹخنے تک ناپ کر کے لٹھا مہیا کریں نیز اگر مریض کوئی نہیں گھر کی وجہ سے عمل کر رہے ہیں تو ساڑھے سات گز لٹھا سفید۔ (۱۰) ایک سو گیارہ روپیہ مبلغ نقد۔ (۱۱) تین قسم کی ایسی مٹھائی جو دودھ سے بنائی گئی ہو۔


ترکیب: عامل سب سے پہلے مرد ہے یا عورت اس کا اور اپنا حصار کرے اگر گھر کا معاملہ ہے تو تصور سے گھر کے چاروں بیرونی کونوں سے حصار کرے اور اگر مریض سامنے ہے تو تمام اشیاء کو سامنے رکھ کر کھلا حصار باندھے۔ اب عامل تمام اناج کو علیحدہ علیحدہ ململ کے کپڑے کے ٹکڑوں پر رکھے۔ اس کے بعد عامل تینتیس تینتیس مرتبہ سورۃ کوثر' آیت الکرسی اور معوذتین پڑھ کر تمام اناج اور مریض پر دم کرے اب مریض اگر مرد ہے تو دائیں ہاتھ سے اور اگر عورت ہے تو بائیں ہاتھ سے ایک ایک کر کے اناج ہنڈیا میں ڈالے (یاد رکھیں دوسرے ہاتھ سے قطعی مدد نہ لی جائے) اب دیگر تمام اشیاء مع مبلغ ایک سو گیارہ (سوائے پھولوں کے) مریض کے ہاتھ سے ناپ کئے گئے کپڑے میں بند کرائے۔ کپڑا تہہ کر کے اوپر گرہ کے ناپ والے کپڑا میں لپیٹ دے۔ اب عامل ذیل کا نقش کالی سیاہی سے سفید باریک کاغذ پر کاہی کے قلم سے تحریر کرے اور ہنڈیا میں ڈال دے۔ اس کے بعد درج ذیل عزیمت اکیس مرتبہ پڑھ کر اناج اور نقش پر دم کرے۔ آخری مرتبہ جونہی عزیمت ختم کر کے دم کرے فوراً ڈھکن ہنڈیا کے منہ پر رکھ دے۔ اب جو پھول گیارہ گیارہ کی تعداد والے پڑے تھے وہ ڈھکن کے اوپر رکھے اور یہی عزیمت تین مرتبہ پڑھ کر پھولوں پر دم کرے اور پھول بھی ہنڈیا میں ڈال دے۔ اب مریض اگر مرد ہے تو دائیں ہاتھ سے اور اگر مریض عورت ہے تو بائیں ہاتھ سے تھوڑا سا آٹا گوندھ کر ہنڈیا کے اوپر لگادے تاکہ ہنڈیا کا منہ اچھی طرح بند ہو سکے اور کوئی چیز باہر نہ آئے۔ اس کے بعد عامل درج دوسرا نقش مثلث لکھے اور ہنڈیا کے ڈھکن پر چسپاں کردے۔ اس تمام کام سے فارغ ہونے کے بعد عامل مریض کو سامنے بٹھا کر مٹھائی اور پہلے سے موجود پھول اور دیگر اشیاء پر فاتحہ دے اور نیاز حضرت رسول مقبولؐ' صحابہ کرامؓ جملہ انبیاءؑ خصوصاً حضرت

سلیمان بن داؤد وارواح اولیاء کرام دے کر تمام اشیاء کو فقیر کو دے دیں۔اب مریض کو بالکل سیدھا لٹا کر عامل سات مرتبہ ہنڈیا اس کے سر سے لیکر پاؤں تک اُتارے۔اس ترکیب سے کہ مریض کے سر کے دائیں طرف مس کرتا ہوا شروع کرے پھر دائیں پیر پھر بائیں ٹخنے سے لگاتا ہوا سر کے دوسرے کونے تک (حصار کی پوزیشن) بنائے اس طرح سات چکر دے۔اب ڈھکن پر جو نقش مثلث چسپاں کیا گیا تھا وہ مریض کے سامنے اُتارے اور ہنڈیا کو مکان کے کسی کونے میں لے جا کر تیز آگ پر چڑھا دے۔آگ اس قدر تیز ہو کہ ہر طرف سے شعلے نکلیں۔ بہتر گھنٹہ تک آگ جلائے رکھیں چاہے گیس ہو یا لکڑیاں مگر آگ ختم نہ ہو عام طور پر ہنڈیا سے گوشت کے جلنے سڑنے کی بو آنے لگتی ہے کبھی ڈھکن کے اوپر خون سا تیر آتا ہے گھر کے افراد اس طرف توجہ دہ دیں جب ہنڈیا سے جلنے سڑنے کی بو ختم ہو جائے اور دھواں بالکل نکلنا ختم ہو جائے جو عام طور پر سرخ یا زرد سیاہ رنگ کا ہوتا ہے تب آگ موقوف کر دیں کوشش کریں جب دھواں اس رنگ کا نکلنے لگے تو ہنڈیا کے اوپر مزین آٹا لگا دیں تاکہ کوئی چیز دھواں بن کر نکل نہ سکے۔اب جب ہنڈیا ٹھنڈی ہو جائے تو مریض کے جسم کا کوئی کپڑا لیکر ہنڈیا اس کے اندر لپیٹ کر کسی نہر یا دریا میں گہرے پانی کی جگہ پھینک دینی چاہئے یاد رکھیں جب تک مریض کے سر سے سات مرتبہ ہنڈیا اُتار نہ لیں تب تک حصار نہ کھولیں اور نہ ہی خود حصار سے باہر آئیں اس عمل سے مریض اور گھر کے دیگر مکین سب جادو سفلی و دیگر شیطانی اعمال کے اثرات ختم ہونگے۔ اللہ پاک کے حکم سے سب ارواح بد، جن وشیاطین آسیب وغیرہ جل جائیں گے۔

قارئین آئینہ قسمت آج میں نے اپنی زندگی کا ایک بیش بہا موتی آپ کے سامنے رکھا ہے۔یہ حقیقت ہے کہ ایسے اعمال مدتوں خدمت کے باوجود بھی نہیں ملتے اور یہ محض اس لئے ایسا کیا ہے کہ آج کے اس مادی دور میں سفلی اعمال کی بہتات ہوگئی ہے خبر نہیں کتنے گھرانے اُجڑ گئے ہیں ہوسکتا ہے میرے اس عمل سے کوئی گھرانہ ان عذاب وتکالیف سے بچ سکے۔اپنی اعمال سے ایک لوح حصار بھی بنتی ہے جس کے پاس رکھنے یا گھر پر موجود ہونے سے ان موذی ارواح و سحر جادو سے انسان ہمیشہ ہمیشہ کیلئے محفوظ ہو جاتا ہے۔اگر زندگی نے ساتھ دیا تو انشاء اللہ ضرور اس لوح حصار کو بھی متعارف کرواؤں گا۔

اللہ عزوجل آپ حضرات کو عمل کی توفیق دے۔آمین۔

ہنڈیا میں رکھنے کا نقش یہ ہے:



۱۶۸	۳۸۱۱۱	۳۸۱۱۴	۲۱
۳۸۱۱۳	۴۲	۱۴۷	۳۸۱۱۲
۶۳	۳۸۱۱۶	۳۸۱۰۹	۱۲۶
۳۸۱۱۰	۱۰۵	۸۴	۳۸۱۱۵

یا اسرائیل یا طاطائیل یا کلکائیل العجل العجل العجل العجل الساعۃ الساعۃ الساعۃ الوحا الوحا الوحا بھسم کرو تمام جن وجنیوں کو پریوں و دیووں و بھوتوں و چڑیلوں خبیثوں وشیاطینوں و گفتاروں و کافروں مردوں و عورتوں و جوگیوں و سحر کندوں و جادوگروں و راکشسوں و عفریتوں و غول بیابانوں و نذر گزرو ہر بلا جو نام مریض معہ والدہ یا مقام ہر مسلط ہے یا اندر جسم اس کے حلول ہے آزار و تکلیف دیتا ہے بحق عظمت ایں فتیلہ و ارواح مردان غیب و مؤکلات سفید پوش و شاہ بکتانوش و ملک قیقطوش و لال بیگ و بخش کوتوال تمام ملعونوں کو ان کے لواحقین و پیروکاروں کو گرفتہ سحر کے جلا دو۔

ڈھکن پر چسپاں کرنے والا نقش مثلث یہ ہے۔نقش کے اندر چال موجود ہے۔



۱۱۷۰۸	۱۱۷۰۱	۱۱۷۰۶
۱۱۷۰۳	۱۱۷۰۵	۱۱۷۰۷
۱۱۷۰۴	۱۱۷۰۹	۱۱۷۰۲

پڑھنے والی عزیمت یہ ہے:

عزمت علیکم یا معشر الجن والارواح والشیطین احضروا یا اصحاب الجن والشیطین یا اصحاب السحر الخناس و اتبعوا ماتتلو الشیطین علیٰ ملک سلیمانؑ و ماکفر سلیمٰن ولکن الشیطین کفروا ویعلمون الناس السحر ٥ هر بلائے که در وجود .... باشد گرفته دریں هنڈیا سوختم سوختم سوختم.

شرف قمر

قارئین! ماہ مئی 2006ء میں شرف قمر 25 مئی 2 بجکر 25 منٹ تا 4 بجکر 7 منٹ تک رہیگا۔ میں وقتاً فوقتاً کوشش کرتا ہوں کہ اپنے تجربات آپ حضرات تک پہنچاتا رہوں۔ علم سمیٹنے سے سمٹتا ضرور ہے مگر بکھیرنے سے کم نہیں ہوتا۔ میرا نظریہ اعمال تک بس اتنا ہے کہ جو کچھ اگر میرے پاس ہے میں اسے قارئین کے سامنے بکھیر دوں تو وہ یقیناً نہ تو مجھ سے چھن جائے گا اور نہ ہی کم ہوگا بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہوسکتا ہے میرا کوئی عمل واقعتاً کسی نادار شخص کے کام آجائے اور وہ میری بخشش کا سامان بن جائے۔ اس اُمید پر ہمیشہ میں نے جو بھی تحریر کیا ہے اُس میں کبھی کوئی نکتہ پنہاں نہیں رکھا۔ یہ عمل بھی اپنی مثال آپ ہے۔ وقت مقررہ پر غسل کرکے پاک کپڑے پہنیں، سرخ جائے نماز پر بیٹھ کر بخورات شمس روشن کریں اور درج طریق سے عمل تحریر کریں۔ سب سے پہلے سائل کا نام معہ والدہ کے اعداد حاصل کر کے ان میں "۸۷" عدد کا اضافہ کریں اور مربع آتشی چال سے پر کریں جب نقش مکمل کر چکیں تب نقش کے نیچے "یا اللہ بحق اللہ الصمد یا اللہ بحق کلائیل اجب دعوتی" بعدازاں مختصر مقصد چاہیں تو تحریر کریں۔ جب لوح یا نقش تیار ہو جائے تو اسے حفاظت سے رکھ دیں بعد نماز عشاء اول آخر درود شریف درمیان میں "۳۸۷" مرتبہ وہی عمل جو لوح کے نیچے تحریر کیا تھا پڑھیں اس کے بعد "اللہ الصمد" (۳۱۳) مرتبہ ورد کریں دوران عمل اپنے مقاصد ذہن میں رکھیں بعد اختتام دونوں وظائف لوح پر دم کرکے لوح محفوظ کرلیں صرف عشاء کے وقت جیب سے نکالیں ایک چلہ کا عمل ہے دیکھیں کس طرح رحمت خداوندی ہوتی ہے۔

قارئین محترم! چونکہ سونا شمس کی دھات ہے اس لئے اگر اللہ عزوجل طاقت دے تو اسے ضرور سونا پر کندہ کریں ورنہ چاندی یا پھر کاغذ سنہرہ رنگ پر بھی تیار کرسکتے ہیں۔ شمس کی ساعات و اوقات زنجانی جنتری 2006ء میں آپ کو مل جائیں گے اسی طرح شرف شمس کی برکات و فوائد بھی آپ جانتے ہونگے جسے یہاں دوہرانا بے معنی ہے۔

ایک مختصر سی مثال میں عمل کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ عدد سائل ۸۱۱ مخصوص اعداد ۳۸۷ کو جمع کیا تو میزان ۱۱۹۸۔ ۳۰ = ۱۱۶۸ ÷ ۴ = ۲۹۲ کسر نہ ہے۔ کسر ایک ہو تو خانہ نمبر ۹ اور اگر کسر تین آئے تو خانہ نمبر ۵ میں ایک کا اضافہ کریں انشاءاللہ میزان درست آئے گی۔

چال نقش

۸	۱۱	۱۴	۱
۱۳	۲	۷	۱۲
۳	۱۶	۹	۶
۱۰	۵	۴	۱۵

لوح یہ ہے:

۷۸۶

اللہ ۲۹۹	اللہ ۳۰۲	اللہ ۳۰۵	اللہ ۲۹۲
اللہ ۳۰۴	اللہ ۲۹۳	اللہ ۲۹۸	اللہ ۳۰۳
اللہ ۲۹۴	اللہ ۳۰۷	اللہ ۳۰۰	اللہ ۲۹۷
اللہ ۳۰۱	اللہ ۲۹۶	اللہ ۲۹۵	اللہ ۳۰۶

جبرائیل — عزرائیل — کھیعص — حمعسق

یا اللہ بحق اللہ الصمد یا اللہ

بحق کلائیل اجب دعوتی......مقصد

رحمکاریہ جفر طلسمی اگربتی

☆......عامل سید شعیب الرحمٰن شاہ کاکاخیل۔ ایبٹ آباد

اس سال 7 مئی 2006 کو مریخ مشتری تثلیث مکمل نظر دوپہر 2.12 منٹ پر قائم ہوگی۔ دوسری سعادت اکبر نظر 8 مئی زہرہ زحل تثلیث مکمل نظر صبح 7.56 منٹ پر قائم ہوگی۔ یہ طلسمی اگربتی سید حفیظ الرحمٰن نقوی آف کراچی سے بطور تحفہ ملی تھی۔ آج کی محفل میں آئینہ قسمت کیلئے طلسمی اگربتی کے عمل کیساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ان نظرات کے دوران اگربتی کے چھ پیکٹ لیکر جو کہ اچھی خوشبو کی ہوں یا میٹرو ولمن اگربتی بہتر رہے گی۔ اس پر مندرجہ ذیل پڑھائی 333 مرتبہ پڑھ کر دم کرنی ہے۔ اس طلسمی اگربتی سے تسخیر خلق، رجوع خلق، یا جن لوگوں کا کاروبار بند ہو، گھر میں نااتفاقی ہو یا کسی کو قرضہ دیا ہو اور واپس نہیں مل رہا۔ طلسمی اگربتی، اس میں کل 90 عدد اگربتیاں ہونگی۔ اس طلسمی اگربتی کیساتھ مکمل کر فائدے سامنے آئیں گے۔ اس کی آزمائش

کرنا شرط ہے۔ جس طرح سورج کا مشرق سے نکلنا اٹل ہے اسی طرح اس کی تاثیر بھی اٹل ہے۔ اس عمل کی ہر قاری کو دعوت عام دیتا ہوں کہ یہ اگربتی استعمال کریں۔ میرے پچھلے گیارہ سالوں سے یہ تجربہ میں ہے۔ اپنے ذاتی تجربات پر یہ عمل پورا اُترا ہے۔ اگر یہ عمل خود تیار نہ کر سکیں تو براہ راست مجھ سے یا عامل سید انتظار حسین شاہ زنجانی صاحب سے تیار کروائیں عمل کا مکمل طریقہ میں نے لکھ دیا ہے۔ عمل کی عبارت مندرجہ ذیل ہے۔

یا مجید رفیع نعم النصیر بحق و کفیٰ باللہ شہیدا محمد رسول اللہ بحق اجب یا حفطیائیل یا حنظیائیل یا مولیائیل یا حنظیائیل سخر لخلقک من الارض والسماء والبحر والبر والجن والانس کما سخرالداؤد سلیمان علیہ السلام٥

یہ عمل 333 مرتبہ پڑھ کر اگربتیوں پر دم کرنا ہے۔ پھر نئے چاند کی نوچندی جمعرات سے اگربتی جلایا کریں روزانہ ایک اگربتی جلانی ہے۔ اللہ پاک تین ماہ یعنی 90 دنوں میں ایسی ترقی عطا فرمائے گا جس سے عقل حیران ہوگی آخر میں مجھ گنہگار سید شعیب الرحمٰن شاہ اور عامل شاہ زنجانی صاحب کے حق میں دعائے خیر کریں۔

رحمکاریہ جفر حاضرات ارواح

آج کی محفل میں آئینہ قسمت کیلئے بہت سے لوگوں کی فرمائش پر عمل حاضرات الارواح کیساتھ حاضر ہوں۔ ارواح کے بارے میں زیادہ تر لوگوں سے سنا اور دیکھا ہے ہر شخص اسکے بارے میں لکھتا ہے اور آج کل بازاروں میں ہزاروں کتب فروخت ہو رہی ہیں۔ اس عمل میں زیادہ تر دھوکہ اور فراڈ ہوتا ہے۔ ہر شخص یہ دعویٰ کرتا ہے بلکہ آج کل کے عاملوں پر تو یقین ہی نہیں۔ ہر شخص جس سے بھی لوگ ملیں تو وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس جنات' مؤکلات ہیں۔ آج کل اخباروں میں ایک شخص کے بارے میں اشتہار آ رہا ہے کہ حروف تہجی کے جتنے بھی مؤکل ہیں میرے قبضے میں ہیں۔ یہ تو عام سی بات ہے آج کل تقریباً تمام خواتین وحضرات تسخیر ارواح' تسخیر مؤکلات اور تسخیر جنات وغیرہ کے شائق ہیں۔ مگر انہیں یہ معلوم نہیں کہ یہ کام جس قدر آسان نظر آتا ہے اس قدر آسان نہیں بلکہ بہت ہی مشکل ہے۔ مگر یاد رہے جب منزل مل جائے تو راستوں کی تمام مشکلات و پریشانیاں انسان بھول جاتا ہے۔ جو خواتین وحضرات اس عمل کو کرنا چاہیں اُن پر لازم ہے کہ مندرجہ ذیل شرائط پر پابند رہیں تب کامیابی کی سیڑھی پر چڑھ سکیں گے۔ پہلی شرط: تمام خواتین وحضرات جو اِس عمل کو کرنا چاہیں ترک حیوانات ضرور کریں یعنی گوشت' دودھ' گھی' پیاز اور کھٹی چیزیں وغیرہ نہ کھائیں کھجور اور اُبلی ہوئی چیزیں کھالیا کریں۔ کم کھانا' کم سونا کم بولنے پر عمل کریں۔ دوسری شرط: پانچ وقت نماز اور درود وسلام کا پابند رہے۔ اپنے عمل کے بارے میں کسی کو نہ بتائیں۔ تیسری شرط: عمل شروع کرنے سے پہلے چہار قل آیت الکرسی کا حصار باندھیں۔ کھانا بھی اس شخص کا پکا ہوا کھائیں جو پانچ وقت نماز اور شریعت کا پابند ہو۔ چوتھی شرط: وہ خواتین وحضرات جو کوئی بھی تسخیر ارواح کا عمل کرے وہ ہر ایک سے اس بات کو پوشیدہ رکھے اس میں آپ ہی کی بھلائی ہے۔ اگر آپ ظاہر کریں گے تو عمل میں رکاوٹیں آئیں گی' عمل چھوٹ جائیگا۔ اگر صبر اور محنت سے عمل کرتے رہے تو اللہ پاک کے فضل وکرم سے کامیابی یقینی ہے۔ ہمارے پشاور کے علاقے میں کچھ دوستوں نے اس عمل کو کیا مگر اپنی کم عقلی کی وجہ سے وہ ناکام ہوئے۔ پانچویں شرط: عمل کرنیوالے خواتین حضرات سے میری گزارش ہے کہ وہ آبادی سے دور کسی ویران جگہ میں کوئی مکان تلاش کریں جہاں کسی کا آنا جانا نہ ہو اور اس کے قریب قبرستان ضرور ہو۔ جب حاضرات کا عمل شروع ہو جائے تو اپنی پڑھائی سے وہ کام رکھیں اور یہ راز کسی پر ظاہر نہ کریں ایک عامل نے حاضری کا عمل کیا کامیاب ہوا۔ ارواح نے ایک شخص سے پوچھا کہ اے شخص تیرا مطلب کیا ہے تو نے ہمیں کیوں بلایا ہے۔ اس عامل نے کہا کہ فلاں عورت کو پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں جاؤ اس عورت کو اٹھا کر میرے پاس لے آؤ۔ بس اس کے سوا میرا کوئی مطلب نہیں۔ ارواح بات سنتے ہی غصہ میں آ گئی پھر اس عامل کو اس کے انجام تک پہنچا دیا یعنی اس کو ختم کر دیا لہٰذا خلاف شرع کوئی کام اس سے نہ لیں۔ چھٹی شرط: میں نے پہلی شرط میں جو اجزاء کھانے کے لکھے ہیں اس کا استعمال کریں۔ عمل والے کپڑے پاک ہوں۔ عطر خوشبو کا استعمال کریں کیونکہ ارواح ومؤکلات کو خوشبو بہت پسند ہوتی ہیں۔ اگر ان شرائط پر آپ لوگ عمل کریں تو یقیناً کامیابی ممکن ہے۔ مؤکل جنات یا ارواح کو تسخیر کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں۔ ہر چیز کیلئے ایک قانون ہے۔ اگر اس قاعدے' قانون پر غور کریں گے تو کامیابی کی پہلی سیڑھی یہی ہے۔ میرے خیال میں چلہ کشی سے پہلے سوا لاکھ مرتبہ کلمہ طیبہ کی زکات نکالیں تاکہ روحانیات بڑھ جائے اور حصار کیلئے بہت ضروری ہوتا ہے کہ حصار کامل ہو تو اس میں چار قل' آیت الکرسی' سورۃ بقرہ کی آخری آیات اور حروف مقطعات کا حصار کرنا چاہئے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے اپنے نام کے اعداد کے مطابق سورۃ اخلاص اور درود پڑھنا ہے اور اس کا ثواب پنجتن

پاک کو بخشا ہے۔ یہ عمل رات کے بارہ بجے شروع کرنا ہے۔ عمل ختم کرنے کا وقت فجر کی اذان سے 30 منٹ پہلے ہونا چاہئے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے کسی عامل کامل یا براہِ راست شہزادہ سید انتظار حسین شاہ زنجانی صاحب سے اجازت حاصل کریں کیونکہ عامل کامل سے اجازت ملنے پر عمل میں رجعت کا خوف نہیں رہتا۔ یہ عمل کل 41 دن کرنا ہے۔ نماز پانچ وقت باجماعت ادا کرنی ہے۔ بخورات لازمی جلانی ہے۔ اس دوران جھوٹ، گالی گلوچ سے پرہیز کرنا ہے۔ اپنے کمرے کو صاف ستھرا رکھیں۔ اگر خدانخواستہ اس دوران پیشاب آ جائے تو حصار کھول کر باہر جا سکتے ہیں عمل دوبارہ شروع کرنا ہوگا۔ بہتر یہی ہے کہ رات کے وقت کھانا پینا نہ کریں۔ عمل کے دوران خوفناک آوازیں، لوگوں کا چلنا پھرنا سنائی دیگا اور طرح طرح کی شکلیں بھی ظاہر ہونگی مگر کسی طرح کا خوف دِل میں پیدا نہ کریں۔ اگر خوف محسوس ہو بھی جائے تو اس کی طرف دھیان نہ کریں۔ پڑھائی جاری رکھیں۔ یہ خیال کریں کہ خدا کے سوا کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں۔ مندرجہ ذیل عمل روزانہ 1591 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جو شرائط میں نے پیش کی ہیں ان پر عمل کرنا اب آپ لوگوں کا کام ہے۔ بغیر اجازت اس عمل کو نہ کریں ورنہ اس کی رجعت ایک دردناک عذاب کی طرح سخت ہے۔ اس دوران کلمہ طیبہ، درود و سلام کی کثرت کریں تاکہ ذہن اور نفس عمارہ کے نقصانات سے محفوظ رہیں۔ یہ عمل ایسے لوگ جن پر پر جنات، آسیب، مرگی یا ذہنی بیمار ہوں نہ کریں، اور جن کی قوت ارادی کمزور ہو وہ بھی اس عمل کو کرنے سے باز رہیں۔ یہ عمل 1591 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے اور ہر نماز کے بعد گیارہ سو مرتبہ کلمہ طیبہ اور درود پڑھنا ہے اور بلند آواز سے یہ سلام بھی کرنا ہے۔ السلام علیکم یا قوم ارواح۔ ہر نماز کے بعد جو پڑھائی کریں یعنی درود اور کلمہ طیبہ کی پھر ایک مرتبہ یہ سلام کرنا ہے۔ یہ عمل مجھے سلسلہ چشتیہ کے ایک مشہور بزرگ علامہ حفیظ الرحمٰن نقوی صاحب سے بطور تحفہ ملا ہے۔ یہ عمل میں آپ لوگوں کی نذر کرتا ہوں جس کو شوق ہو وہ کریں مگر کرنے سے قبل 70 مرتبہ ضرور سوچیں، پیچھے اجازت دینے والا کامل ہو تو کامیابی یقینی ہے۔ یہ عمل بیمار حضرات بھی نہ کریں۔ اس دوران جو عجائبات عامل دیکھیں کسی کو نہ بتائیں۔ جب آخری دن ارواح حاضر ہو جائیں اس سے عہد اور شرائط لیکر رخصت کریں اور جو شرائط وہ بتائیں وہ اپنے پاس لکھیں۔ پھر اس پر پابند کریں پھر بھی جب اس عمل میں آپ کامیاب ہو جائیں تو کسی پر ظاہر نہ کریں کہ آپ کے پاس کیا ہے اور وہ شرائط کسی کو نہ بتائیں۔ عمل کا طریقہ میں نے مکمل لکھ دیا ہے پھر بھی کسی کو سمجھ نہ آئے تو ادارہ آئینہ قسمت سے رجوع کریں۔ عمل کا طریقہ یہ ہے۔

عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالْاَرْوَاحِ بِحَقِّ اَللّٰهُمَّ يَا قُدُّوْسُ لَقَدَسْتَ بَالْقُدْسِ وَالْقُدْسُ فِىْ قُدْسِ قُدْسِكَ يَا قُدُّوْسُ بِحَقِّ حضرت سلیمان علیہ السلام بن داؤد علیہ السلام یا قوم ارواح حاضر شو حاضر شو حاضر شو بحق لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ محمد الرسول اللهo

یہ عمل 41 دن تک 1591 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ خداوند کریم آپ لوگوں کو کامیاب کرے۔ (آمین)

لوح افلاطون

لوح افلاطون ایک بزرگ لوح ہے۔ اس لوح کو شرف شمس، شرف زہرہ، شرف مریخ کے علاوہ شرف قمر میں بنایا جا سکتا ہے۔ جو لوگ وجہ بے وجہ نحوست، خرابی، گھریلو پریشانیوں میں مبتلا ہیں وہ یہ لوح تیار کر کے اپنے پاس رکھیں۔ یہ لوح سوا تولے چاندی کی ایک پلیٹ پر بنوا کر اس پر کندہ کریں۔ اس کی برکت سے تسخیر فتوحات، ڈر خوف، تسخیر سیارگان بلکہ ہر طرح کی کامیابیاں حاصل ہوں گی۔ افلاطون الزمان علم الجفر اور علم طلسمات میں ایک استاد کی حیثیت رکھتے تھے۔ اکثر علماء جفر، طلسمات سے کام لیتے ہیں۔ آج کی محفل میں آئینہ قسمت کیلئے لوح افلاطون کیساتھ حاضر ہوں۔ لوح افلاطون ایک ایسی شاہکار لوح ہے کہ اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ آزمائش شرط ہے۔ ہر شخص اس علم سے واقف نہیں۔ اس عمل کی میں سب کو دعوت دیتا ہوں کہ تیار کر کے پاس رکھیں پھر اللہ پاک کے فضل و کرم سے چند دنوں میں غنی ہونگے۔ جن لڑکے لڑکیوں کی شادی نہ ہوتی ہو۔ ان کے لئے خاص عمل ہے۔ یہ عمل اگر خود تیار نہ کر سکیں تو عامل شاہ زنجانی صاحب سے تیار کروائیں۔ آخر میں مجھ گنہگار سید شعیب الرحمٰن شاہ، شاہ زنجانی صاحب کے حق میں دعائے خیر کریں۔

